



ADVICE FOR INVESTORS

INVESTMENT IN EQUITY SECURITIES AND EQUITY RELATED SECURITIES INVOLVES A CERTAIN DEGREE OF RISK. THE INVESTORS ARE REQUIRED TO READ THE RIGHTS SHARE OFFER DOCUMENT (*HEREIN REFERRED TO AS 'OFFER DOCUMENT'*) AND RISK FACTORS CAREFULLY, ASSESS THEIR OWN FINANCIAL CONDITIONS AND RISK-TAKING ABILITY BEFORE MAKING THEIR INVESTMENT DECISIONS IN THIS OFFERING.

RIGHT ENTITLEMENT LETTER IS TRADABLE ON PSX, RISKS AND REWARDS ARISING OUT OF IT SHALL BE SOLE LIABILITY OF THE INVESTORS.

THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR THE PURPOSE OF PROVIDING INFORMATION TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AND TO THE PUBLIC IN GENERAL IN RELATION TO THE RIGHTS ISSUE OF PKR 500,000,000 CONSISTING OF 20,000,000 NEW ORDINARY SHARES BY MIRPURKHAS SUGAR MILLS LIMITED. A COPY OF THIS DOCUMENT HAS BEEN REGISTERED WITH THE SECURITIES EXCHANGE.

THIS OFFER DOCUMENT IS VALID TILL JULY 05, 2024.



MIRPURKHAS SUGAR MILLS LIMITED

Right Share - Offer Document

Date and place of incorporation: May 27, 1964, Karachi, **Incorporation number:** 0001893, **Head Office:** 2nd Floor, Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi-75530 **Contact No:** +92(21) 111-354-111, **Website:** <https://gfg.com.pk/msm/>, **Contact Person:** Mr. Wasif Khalid, Phone: +92(21) 111-354-111, **Email:** rismm@gfg.com.pk

Issue Size: The Issue consists of 20,000,000 Right Shares (i.e. approximately 42.957% of existing paid-up capital of Mirpurkhas Sugar Mills Limited) having face value of PKR 10/- each at an offer price of PKR 25/- each (including a premium of PKR 15/- per share). The total amount to be raised through the right issue is PKR 500,000,000.

Date of Placing Offer Document on PSX for Public Comments:	N/A (Public comments are not being sought)
Date of Final Offer Letter:	March 28, 2024
Date of Book Closure:	From March 26, 2024 to April 01, 2024
Subscription Amount Payment Dates:	From April 08, 2024 to May 07, 2024
Trading Dates for Letter of Rights:	From April 08, 2024 to April 29, 2024


Details of the relevant contact persons:

	Name of the Person	Designation	Contact Number	Office Address	Email ID
Authorized Officer of the Issuer	Mr. Wasif Khalid	Director and Chief Financial Officer	+92(21) 111-354-111	2 nd Floor, Modern Motors House, Beaumont Road, Karachi-75530	rismm@gfg.com.pk
Underwriters to the Issue					
Arif Habib Limited	Mr. Taha Siddiqui	Chief Financial Officer	+92 (21) 111-245-111	2/F, Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi	taha.siddiqui@arifhabibltd.com
Ismail Iqbal Securities (Private) Limited	Mr. Ahfaz Mustafa	Chief Executive Officer	+92 (21) 111-111-447	Bangalow # C-94 KDA SCHEME 1, Main Karsaz Road Karachi	ahfaz.mustafa@ismailiqbal.com
Bankers to the Issue					
Meezan Bank Limited	Mr. Mirza Ayub Baig	Senior Vice President - Department Head Capital Markets	+92 (21)-36406118	Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi	ayub.baig@meezanbank.com
Habib Metropolitan Bank Limited	Mr. Syed Mairaj Hassan	Team Leader Sales (South) Transaction Banking	+92 (21) 32644571	Spencer's Building, Transaction Banking, Mezzanine Floor, I.I. Chundrigar Road, Karachi	Mairaj.hassan@habibmetro.com

This Offer Document can be downloaded from <https://gfg.com.pk/msm/right-share-offer/> and <https://www.psx.com.pk/>


UNDERTAKING BY THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF FINANCIAL OFFICER

V353440

15

100 Rupees

23 NOV 2023

STAMP VENDOR

15

28-03-2024

WE, ASLAM FARUQUE, THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND WASIF KHALID, THE CHIEF FINANCIAL OFFICER OF MIRPURKHAS SUGAR MILLS LIMITED CERTIFY THAT:

1. THIS OFFER DOCUMENT CONTAINS ALL INFORMATION WITH REGARD TO THE ISSUER AND THE ISSUE, WHICH IS MATERIAL IN THE CONTEXT OF THE ISSUE AND NOTHING HAS BEEN CONCEALED IN THIS RESPECT;
2. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS OFFER DOCUMENT IS TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND BELIEF;
3. THE OPINIONS AND INTENTIONS EXPRESSED THEREIN ARE HONESTLY HELD;
4. THERE ARE NO OTHER FACTS, THE OMISSION OF WHICH MAKES THIS OFFER DOCUMENT AS A WHOLE OR ANY PART THEREOF MISLEADING; AND
5. ALL REQUIREMENTS OF THE COMPANIES ACT, 2017, THE COMPANIES (FURTHER ISSUE OF SHARES) REGULATIONS, 2020, THE CENTRAL DEPOSITORY COMPANY AND THAT OF PSX PERTAINING TO THE RIGHT ISSUE HAVE BEEN FULFILLED.

FOR AND BEHALF OF MIRPURKHAS SUGAR MILLS LIMITED

ASLAM FARUQUE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

WASIF KHALID
CHIEF FINANCIAL OFFICER



UNDERTAKING BY THE BOARD OF DIRECTORS

AC207596

100
Rupees

POSTMASTER STAMP VENDOR
Khalid M. S. No. 3, Chughtai St,
Mirpurkhas, Block "B" II, Rawalpindi, Pakistan.
Q. NO: 007898
DATE: 24 JAN 2024

STAMP TO WATER ADDRESS
TRANSFER WITH ADDRESS
POSTAGE: _____
POST FROM POSTAL SERVICE OFFICE
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION

UPPER ONE HUNDRED

UNDERTAKING BY THE BOARD OF DIRECTORS

Date: 28-03-2024

WE, THE BOARD OF DIRECTORS OF MIRPURKHAS SUGAR MILLS LIMITED HEREBY CONFIRM THAT:

- ALL MATERIAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER THE COMPANIES ACT, 2017, THE SECURITIES ACT, 2015, COMPANIES (FURTHER ISSUE OF SHARES) REGULATIONS, 2020, THE LISTING OF COMPANIES AND SECURITIES REGULATIONS OF THE PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED HAS BEEN DISCLOSED IN THIS OFFER DOCUMENT AND THAT WHATEVER IS STATED IN THIS OFFER DOCUMENT AND IN THE SUPPORTING DOCUMENTS IS TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND BELIEF AND THAT NOTHING HAS BEEN CONCEALED.
- WE UNDERTAKE THAT ALL MATERIAL INFORMATION, INCLUDING RISKS THAT WOULD ENABLE THE INVESTOR TO MAKE AN INFORMED DECISION, HAS BEEN DISCLOSED IN THE OFFER DOCUMENT.
- RIGHT ISSUE IS THE DISCRETION OF BOARD OF THE ISSUER AND IT NEITHER REQUIRE APPROVAL OF THE COMMISSION NOR THE SECURITIES EXCHANGE.
- THE DRAFT OFFER DOCUMENT WAS PLACED ON THE WEBSITE OF THE SECURITIES EXCHANGE AND THE ISSUER ON 09-02-2024 (I.E. WITHIN 45 DAYS OF THE DATE OF ANNOUNCEMENT BY THE BOARD).
- COMMENTS FROM SECURITIES EXCHANGE AND THE SECP WERE RECEIVED ON 08-03-2024
- THE BOARD HAS ENSURED THAT DRAFT OFFER DOCUMENT IS UPDATED IN LIGHT OF THE SECURITIES EXCHANGE AND SECP COMMENTS.
- THE BOARD HAS DISCLOSED ON PSX'S AND COMPANY'S WEBSITE, ALL THE COMMENTS RECEIVED ALONG WITH THE EXPLANATIONS AS TO HOW THEY ARE ADDRESSED.

VII THE FINAL OFFER DOCUMENT WAS PLACED ON SECURITIES EXCHANGE WEBSITE ON 28-03-2024 ALONG WITH THE BOOK CLOSURE DATES AND RELEVANT RIGHT ISSUANCE TIMELINES (I.E. WITHIN 20 WORKING DAYS FROM THE DATE OF RECEIPT OF COMMENTS OF PSX & SECP).

IX THE STATUTORY AUDITOR KRESTON HYDER BHMJI & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS WILL MONITOR THE PROCEED UTILIZATION IF THE ISSUANCE PROCEEDS EXCEED RS.750 MILLION OR 50% OF THE PAID-UP CAPITAL OF THE LISTED COMPANY ISSUING RIGHT SHARES, WHICHEVER IS HIGHER.

Mr. Arif Faruque

Mr. Aslam Faruque

Mr. Amer Faruque

Ms. Farzana Faruque

Mr. Hasan Raza Ur Rahim

Mr. Abdul Shaikoor Shaikh

Mr. Wasif Khalid


DISCLAIMER:

- i. In line with Companies Act, 2017 and Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, this document does not require approval of the Securities Exchange /Pakistan Stock Exchange Limited and the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).
- ii. The Securities Exchange and the SECP disclaims:
 - a. Any liability whatsoever for any loss however arising from or in reliance upon this document to any one, arising from any reason, including, but not limited to, inaccuracies, incompleteness and/or mistakes, for decisions and/or actions taken, based on this document.
 - b. Any responsibility for the financial soundness of the Company and any of its schemes/projects stated herein or for the correctness of any of the statements made or opinions expressed with regards to them by the Company in this Offer document.
 - c. Any responsibility with respect to quality of the issue.
- iii. It is clarified that information in this Offer Document should not be construed as advice on any particular matter by the SECP and the Securities Exchange and must not be treated as a substitute for specific advice.

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS

Act	Securities Act, 2015
CDC	Central Depository Company of Pakistan Limited
CDS	Central Depository System
CNY	Chinese Yuan
Companies Act	Companies Act, 2017
IAS	Investor Account Services
LoR	Letter of Rights
Mn	Million
NICOP	National Identity Card for Overseas Pakistani
OCC	Old Corrugated Cartons
PKR or Rs.	Pakistan Rupee(s)
PSX /Securities Exchange	Pakistan Stock Exchange Limited
USD	United States Dollar



DEFINITIONS

Application Money	The total amount of money payable by existing shareholder which is equivalent to the value of shares to be allotted.
Banker to the Issue	Any bank with whom an account is opened and maintained by the Issuer for keeping the issue amount. Meezan Bank Limited and Habib Metropolitan Bank Limited have been appointed, in this Right Issue, as the Bankers to the Issue.
Book Closure Dates	The Book Closure shall commence from March 26, 2024 to April 01, 2024 (both days inclusive).
Company	Mirpurkhas Sugar Mills Limited (the “ Company ” or “ MSML ” or the “ Issuer ”).
Commission	Securities and Exchange Commission of Pakistan (“ SECP ”).
Issue	Issue of 20,000,000 Right Shares representing approximately 42.957% of total paid-up capital of the Company.
Issue Price	The price at which Right Shares of the Company are issued to the existing shareholders. (Pkr 25/- per share)
Ordinary Shares	Ordinary Shares of Mirpurkhas Sugar Mills Limited having face value of PKR 10.00/- each.
Regulations	Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020 https://www.secp.gov.pk/document/the-companies-further-issue-of-capital-regulations-2020-amended-till-september-16-2022/?wpdmdl=45863&refresh=65e9c3e2ecea1709818850
Right Issue	Shares offered by a company to its members strictly in proportion to the shares already held in respective kinds and classes.
Sponsor	A person who has contributed initial capital in the issuing company or has the right to appoint majority of the directors on the board of the issuing company directly or indirectly; A person who replaces the person referred to above; and A person or group of persons who has control of the issuing company whether directly or indirectly.



Table of Contents

1	SALIENT FEATURES OF THE RIGHT ISSUE	8
1.1.	BRIEF TERMS OF THE RIGHT ISSUE.....	8
1.2.	PRINCIPAL PURPOSE OF THE ISSUE AND FUNDING ARRANGEMENTS.....	9
1.3.	FINANCIAL EFFECTS ARISING FROM RIGHT ISSUE	10
1.5.	DETAILS OF UNDERWRITERS.....	11
1.6.	COMMITMENTS FROM SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS/DIRECTORS.....	11
1.7.	FRACTIONAL SHARES.....	12
1.8.	IMPORTANT DATES.....	12
2	SUBSCRIPTION AMOUNT PAYMENT PROCEDURE.....	13
3	PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY AND SPONSORS.....	13
3.1.	PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY.....	13
3.2	DIRECTORS DIRECTORSHIP IN OTHER COMPANIES.....	16
3.3	PROFILE OF SPONSORS OF THE COMPANY.....	16
4	FINANCIAL DETAILS OF THE ISSUER.....	18
4.1	FINANCIAL HIGHLIGHTS OF THE ISSUER FOR THE LAST THREE YEARS.....	18
4.2	FINANCIAL HIGHLIGHTS OF PRECEDING ONE YEAR OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS.....	18
4.3	DETAILS OF ISSUE OF CAPITAL IN PREVIOUS FIVE YEARS.....	19
4.4	AVERAGE MARKET PRICE OF THE SHARE OF THE ISSUER DURING THE LAST SIX MONTHS.....	19
4.5	SHARE CAPITAL AND RELATED MATTERS.....	19
5.	RISK FACTORS	20
5.1	RISK ASSOCIATED WITH THE RIGHT ISSUE.....	20
5.2	RISK ASSOCIATED WITH ISSUER	20
6	LEGAL PROCEEDINGS:	23
6.1	OUTSTANDING LEGAL PROCEEDINGS OF THE COMPANY	23
6.2	Any outstanding legal proceeding other than the normal course of business involving the issuer, its sponsors, substantial shareholders, directors and associated companies, over which the Issuer has control, that could have material impact on the issuer.	26
6.3	Action taken by the securities exchange against the issuer or associated listed companies of the issuer during the last three years due to noncompliance of its regulations.	26
7	SIGNATORIES TO THE OFFER DOCUMENT	27



1 SALIENT FEATURES OF THE RIGHT ISSUE

1.1. BRIEF TERMS OF THE RIGHT ISSUE

a)	Description of Issue	Issuance of Right Shares to existing shareholders
b)	Size of the proposed Issue	The Company shall issue 20,000,000 (Twenty Million) ordinary shares, at a price of PKR 25/- (Pak Rupees Twenty-Five) per share, aggregating to PKR 500,000,000/- (Pak Rupees Five Hundred Million).
c)	Face Value of the Share	PKR 10/-
d)	Basis of determination of price of the right issue	The Right Issue is being carried out at a premium. Considering the current market price of the Company, the premium charged over the par value is justified and is in line with market practice.
e)	Proportion of new issue to existing shares with any condition applicable thereto	Approximately 42.957 right shares for every 100 ordinary shares held i.e. Approximately 42.957% of the existing paid-up capital of the Company.
f)	Date of meeting of Board of Directors (BoD) wherein the right issue was approved	January 26, 2024
g)	Name of directors attending the Board Meeting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Arif Faruque, Chairman 2. Mr. Aslam Faruque, Chief Executive Officer 3. Mr. Amer Faruque, Non-Executive Director 4. Ms. Farzana Faruque, Non-Executive Director 5. Mr. Wasif Khalid, Executive Director 6. Mr. Hasan Reza Ur Rahim, Independent Director 7. Mr. Abdul Shakoor Shaikh, Independent Director
h)	Brief purpose of utilization of right issue proceeds	Proceeds raised from the Right Issue shall be utilized towards funding of the working capital requirements of MSML, in order to ensure smooth operations which is fundamental for the Company's sustained growth, thus leading to enhancing its profitability and consequently maximizing shareholders' return.
i)	Purpose of the Right Issue	The purpose of the Right Issue is to raise funds to enable MSML to meet its growing working capital requirements. The proceeds shall be utilized towards funding of the day-to-day working capital needs of the Company, thus ensuring smooth business operations by maintaining liquidity levels. This would enable MSML to have improved financial ratios and enhanced profitability which would collectively contribute to the maximization of shareholders' returns.



j)	Minimum level of subscription' (MLS)	None
----	--------------------------------------	------

1.2. PRINCIPAL PURPOSE OF THE ISSUE AND FUNDING ARRANGEMENTS

Mirpurkhas Sugar Mills Limited intends to raise funds to meet growing working capital requirements of its business. The proceeds shall be utilized towards funding of the day-to-day working capital needs of the Company, thus ensuring smooth business operations by maintaining liquidity levels. This would enable MSML to have improved financial ratios and enhanced profitability which would collectively contribute to the maximization of shareholders' returns.

Given below is the break-up of utilization of right issue proceeds:

Purpose of the Issue	Proceeds Utilization (PKR)	% of Right Issue Proceeds
Working capital requirements	500,000,000	100%

The envisaged working capital requirements of MSML will be met through the proceeds of the Right Issue which is essential for a sustained business growth.

Activities that are classified as working capital

The major activities for the purposes of working capital shall include (but are not limited to) the following:

- Payment for the procurement of raw materials
- Payment of chemicals, stores, spares and related maintenance expenses
- Payment of operating expenses
- Other expenses incidental to working capital requirements of MSML

Basis of estimation of working capital requirement, along with relevant assumptions

The estimation of working capital requirements is based on a combination of historical and projected data such as the significant rise in input costs in the backdrop of economic slowdown, high interest rates, rising exchange rates that led to higher receivable cycle, increase in prices of raw material and stores/spares which increased the working capital requirements to support the smooth business operations of MSML.

Reasons for raising additional working capital, substantiating the same with relevant facts and figures

Working capital is being raised to sustain and grow the Company's business while maximizing shareholders' returns. Owing to current economic situation and slowdown in business activities including significant rise in input costs, overall operating cycle has been impacted in the FY 2023. The Company is not able to generate sufficient internal cash flows to meet its working capital requirements and is reliant on banks for its short-term needs. Given the unfavorable interest rate environment, funding the Company's working capital requirements largely through banks / financial institutions' debt is not a feasible option.



Therefore, in light of the above, utilizing equity raised funds for working capital purposes is a more prudent and strategic approach, which will reduce the dependency on short-term borrowings and consequently the finance cost. The Right Issue would help MSML to improve its liquidity and reduce finance cost consequently maximizing returns to the shareholders'. Further it will improve the capital structure of the Company.

Cash Conversion Cycle in Number of days for last three years

	2023	2022	2021
Cash Conversion Cycle (days)	135 ¹	110 ²	97 ³

1.3. FINANCIAL EFFECTS ARISING FROM RIGHT ISSUE

	Measurement Unit	Pre-Issue	Post Issue	Increase/ (decrease) in %
As at September 30, 2023				
Authorized Capital	PKR Mn	1,500	1,500	-
Paid-up-Capital	PKR Mn	465.57	665.57	42.957%
Net Asset/ Breakup value per share ⁴	PKR	87.89	68.99	(21.5%)
Gearing Ratio ⁵	%	39.24%	36.53%	(6.9%)
Production Capacity	Sugarcane Crushing capacity per day (tons)	12,500	12,500	N/A
	Paper Capacity per day (tons)	250	250	N/A
Market Share	Based on latest Market Capitalization ⁶	3%	3%	N/A

Note: The numbers above are based on the Audited Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2023.

¹ The cash conversion cycle for 2023 is calculated using Inventory Days plus Receivable Days minus Payable Days, i.e. (108+37-10=135).

² The cash conversion cycle for 2022 is calculated using Inventory Days plus Receivable Days minus Payable Days, i.e. (99+20-9=110).

³ The cash conversion cycle for 2021 is calculated using Inventory Days plus Receivable Days minus Payable Days, i.e. (83+22-8=110).

⁴ The Breakup value per share is calculated as follows: Total Equity divided by number of shares

⁵ The Gearing ratio is calculated as follows: Total Long-Term Debt divided by the Sum of Equity and Total Long-Term Debt

⁶ As of March 26, 2024



1.4. TOTAL EXPENSES TO THE ISSUE

PSX Fee (0.2% of increase in paid-up capital)	PKR 400,000
Bankers Commission	Nil
Underwriting Commission	1.00%
Underwriter Take-up Commission	1.50%
Bankers to the Issue – Out of Pocket	PKR 100,000
CDC – Fresh Issue Fee	PKR 500,000
CDC – Annual Fees for Eligible Security (Listing Fee)	PKR 600,000
SECP Supervisory Fee (10% of fees paid to PSX)	PKR 40,000
Auditor Fee for Auditor Certificates	PKR 500,000
Other expenses, Printing costs, Lawyers and consultation fees, etc.)	Up to PKR 5,000,000

1.5. DETAILS OF UNDERWRITERS

Name of the Underwriter	Amount Underwritten in PKR	Associated Company/Associated Undertaking of the Issuer
Arif Habib Limited	208,218,675	No
Ismail Iqbal Securities (Private) Limited	80,000,000	No

1.6. COMMITMENTS FROM SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS/DIRECTORS

Name	Status	Number of Existing Shares	Number of Shares Committed to be subscribed ⁷	Amount Committed to be Subscribed in PKR	Shareholding % - pre issuance	Shareholding % - post issuance
Faruque (Private) Limited*	Substantial Shareholder	19,286,163	8,328,864	208,221,600	41.42%	41.49%
Mr. Aslam Faruque	Director	286,173	122,931	3,073,275	0.61%	0.61%
Mr. Amer Faruque	Director	30,108	12,933	323,325	0.06%	0.06%

⁷ These may be subscribed through persons arranged by the said directors as permitted under the Regulations.



Mr. Wasif Khalid	Director	15,189	6,524	163,100	0.03%	0.03%
Mr. Hasan Reza Ur Rahim	Director	3	1	25	0.00%	0.00%

**This amount includes right shares subscription of 44,107 shares of the existing Director Mr. Arif Dino Faruque which have been arranged to be subscribed by Faruque (Private) Limited.*

1.7. FRACTIONAL SHARES

All fractional entitlements, if any, will be consolidated and unpaid letters of right in respect thereof shall be sold on the Pakistan Stock Exchange Limited, the net proceeds from which sale, once realized, shall be distributed / paid to the entitled shareholders in proportion to their respective entitlements as per the Regulations.

1.8. IMPORTANT DATES

Mirpurkhas Sugar Mills Limited Tentative Schedule for Issuance of Letter of Rights Book Closure: From March 26, 2024 to April 01, 2024 (both days inclusive)			
S.No	Procedure	Day	Date
a)	Date of credit of unpaid Rights into CDC in Book Entry Form	Tuesday	April 02, 2024
b)	Dispatch of Letter of Right (LOR) to physical shareholders	Thursday	April 04, 2024
c)	Intimation to PSX Dispatch/Credit of Letter of Right (LOR) to physical shareholders	Thursday	April 04, 2024
d)	Commencement of trading of unpaid Rights on the Pakistan Stock Exchange Limited	Monday	April 08, 2024
e)	Last date for splitting and deposit of Requests into CDS	Thursday	April 18, 2024
f)	Last date of trading of Rights Letter	Monday	April 29, 2024
g)	Last date for acceptance and payment of shares in CDC and physical form - Last payment date	Tuesday	May 07, 2024
h)	Allotment of shares and credit of book entry of Shares into CDC	Monday	May 27, 2024
i)	Date of Dispatch of physical shares certificates	Friday	June 07, 2024



2 SUBSCRIPTION AMOUNT PAYMENT PROCEDURE

- a) Payment as indicated above should be made by cash or crossed cheque or demand draft or pay order made out to the credit of “Mirpurkhas Sugar Mills Limited Right Shares Subscription” through any of the authorized branches of above-mentioned banks on or before **May 07, 2024** along with the Right Subscription Request duly filled in and signed by the subscriber(s).
- b) Right Subscription Request can be downloaded from <https://gfg.com.pk/msm/right-share-offer/>.
- c) In case of Non-Resident Pakistani / Foreign shareholder, the demand draft of equivalent amount in Pak Rupees should be sent to the Company Secretary, (Mirpurkhas Sugar Mills Limited) at the Registered Office of the Issuer along with Right Subscription Request (both copies) duly filled and signed by the subscriber(s) with certified copy of NICOP / Passport well before the last date of payment.
- d) All cheques and drafts must be drawn on a bank situated in the same city where Right Subscription Request is deposited. Cheque is subject to realization.
- e) The Bankers to the Issue will not accept Right Subscription Request delivered by post which may reach after the closure of business on May 07, 2024, unless evidence is available that these have been posted before the last date of payment.
- f) Payment of the amount indicated above to the Issuer’s Banker to the Issue on or before May 07, 2024 shall be treated as acceptance of the Right offer.
- g) After payment has been received by the Company’s Banker to the Issue, the Right Securities will be credited into respective CDS Accounts within 14 business days from the last payment date. Paid Right Subscription Request will not be traded or transferred.
- h) **Online Payment option for Investor Account Services (IAS) Account Holders/Sub Account Holders:** CDC has introduced online payment facility through 1link for Rights Subscription. The investor account holders can now make online payment for their respective rights subscribed against 1Bill payment ID printed on the top right of the subscription request (generated by CDS) through all the available online banking channels of 1Links member banks (such as internet banking, Automated Teller Machine (ATM) and Mobile banking).

3 PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY AND SPONSORS

3.1. PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

BOARD OF DIRECTORS	DESIGNATION	LAST DATE OF APPOINTMENT
Mr. Arif Faruque	Chairman	January 21, 2023
Mr. Aslam Faruque	Chief Executive Officer	January 21, 2023
Mr. Amer Faruque	Non-Executive Director	January 21, 2023
Ms. Farzana Faruque	Non-Executive Director	January 21, 2023
Mr. Wasif Khalid	Executive Director	January 21, 2023
Mr. Hasan Reza Ur Rahim	Independent Director	January 21, 2023
Mr. Abdul Shakoor Shaikh	Independent Director	November 29, 2023

**MR. ARIF FARUQUE**
CHAIRMAN

Mr. Arif Faruque is a Swiss - qualified Attorney-at-Law. He also holds Masters degrees in both Law and Business Administration from the United States of America and has recently completed the Owner President Management Program at Harvard Business School. He is the Chief Executive of Faruque (Pvt.) Ltd. He is on the Board of Directors of Cherat Packaging Ltd., Cherat Cement Company Ltd. and UniEnergy Ltd. Besides the above, he is also a member of the Board of Governors of Lahore University of Management Sciences.

MR. ASLAM FARUQUE
CHIEF EXECUTIVE

Mr. Aslam Faruque is a graduate with a major in Marketing. He is the Chief Executive of Mirpurkhas Sugar Mills Ltd., Unicol Ltd. and UniEnergy Ltd. He is on the Board of Directors of Cherat Packaging Ltd. Greaves Airconditioning (Pvt.) Ltd. and Greaves Engineering Services (Pvt.) Ltd. In the past, he has served as the Chairman and Senior Vice Chairman of Pakistan Sugar Mills Association - Center. He also served as Chairman of Pakistan Sugar Mills Association Sindh Zone and Director of Sui Southern Gas Company Ltd., State Life Insurance Corporation of Pakistan and Pakistan Industrial Development Corporation.

MR. AMER FARUQUE
DIRECTOR

Mr. Amer Faruque is a Bachelor of Science (BS) graduate in Business Administration majoring in Management / Marketing from Drake University, Des Moines, Iowa, USA. He is the Chief Executive of Cherat Packaging Limited. He serves as a member of the Board of Directors of Faruque (Pvt.) Ltd., Greaves Pakistan (Pvt.) Ltd., Greaves CNG (Pvt.) Ltd. and Executive Director Marketing of Cherat Cement Co. Ltd. In the past he has served as a member of the Board of Governors of Ghulam Ishaq Khan (GIK) Institute of Engineering Sciences and Technology and Lahore University of Management Sciences (LUMS) and the Centre of International Private Enterprise (CIPE). He is also the Honorary Consul of Brazil in Peshawar.

MS. FARZANA FARUQUE
DIRECTOR

Ms. Farzana Faruque graduated from Chelsea College of Art and Design with a BA (Hons) in Graphic Design and Communications. She later pursued her passion for nutrition and fitness and got certified as a Health Coach and Fitness Trainer. Ms. Farzana, founded an indoor cycling fitness studio and co-founded a Health and Detox food brand in 2015. She is also the social media and marketing manager for Studio X. Her expertise allows her to be able to grow her brands and become a known name throughout Pakistan.

MR. WASIF KHALID
DIRECTOR

Mr. Wasif Khalid is a fellow member of Institute of Chartered Accountant of Pakistan (ICAP) and fellow member of Pakistan Institute of Public Finance Accountants (PIPFA). He has also done his Master's in Business Administration (Marketing and Operations Management) from Hamdard University, Karachi.



He is the Director and Chief Financial Officer of Mirpurkhas Sugar Mills Ltd. and Zensoft (Pvt.) Ltd. Mr. Khalid is also serving on the Board of Director of Mirpurkhas Sugar Mills Ltd., Greaves Airconditioning (Pvt.) Ltd., Greaves CNG (Pvt.) Ltd., Greaves Engineering Services (Pvt.) Ltd. and as an Executive Director Finance of Unicol Ltd.

He has contributed immensely towards development of financial models and implementation of new projects. He has been actively involved with the regulators, practitioner and leading Shariah scholars of the industry for developing the commercial industry transactions. Prior to Ghulam Faruque group, Mr. Khalid was associated with various companies in Middle East and in Pakistan he worked with one of the Big 4 audit firms. He has over 21 years' worth of rich experience in financial restructuring and modeling, project financing, operational management and internal audit.

He has served as a general body member of FPCCI, as Head of cost and budget committee of PSMA-Sindh Zone and served as Member committee agriculture development and reforms at Ministry of Industries and Production and Kisan Board on behalf of PSMA- Sindh Zone. He has also been nominated as a member of the sugar monitoring committee formed by the Federal Board of Revenue.

MR. HASAN REZA UR RAHIM
DIRECTOR

Mr. Rahim is an accomplished professional who has 40 years of domestic and international experience in the Banking and Financial Services industry. He brings with him 10 years of public listed company board and governance knowledge and is currently serving on the boards of Atlas Insurance Ltd. and Mirpurkhas Sugar Mills Ltd. He has also served on the boards of Cyan Ltd., Dawood Hercules Corporation Ltd. (DH Corp), Dawood Lawrencepur Ltd., Hascol Ltd., and Hum Networks Ltd.

Previously Mr. Rahim was the Executive Director of the Chairman Office of the Dawood Group which, consisted of several listed and unlisted companies and is one of the largest entrepreneurial groups in Pakistan. DH Corp is the flagship investment entity of the Dawood Group which has a large minority shareholding in Engro Corporation Limited.

During his banking career, Mr. Rahim spent 15 years at JPMorgan where he held several senior positions both in Pakistan and abroad. His accomplishments include assisting in establishing and heading the Global Corporate Bank in Bahrain, Qatar and Saudi Arabia, was Senior Country Officer of Pakistan and was an integral part of the Regional Corporate Finance team based in Singapore. He has originated, led and executed large and complex Mergers & Acquisition transactions and Privatizations totaling over USD 5.0 billion, Sovereign Debt and Bond issues of over USD 2.0 billion in the Telecom, Airlines, Banking, Oil & Gas and Petrochemical industries. Earlier in his career Mr. Rahim, also held senior positions with Mashreq Bank psc and ANZ Grindlays Bank plc. He has worked in several international locations that included Zurich, Singapore, Bahrain and Dubai.

He received his Bachelor's degree from the University of Delaware in USA and is an IFC certified trainer to conduct corporate governance training. He is also a Pakistan Institute of Corporate Governance certified Director and on its faculty.

MR. ABDUL SHAKOOR SHAIKH
DIRECTOR

Mr. Abdul Shakoor Shaikh has been part of Civil Services of Sindh as well as Pakistan for the last 27 years, including 12 years Services experience in Social Sector & Community Welfare. After doing Bachelors in Computer System Engineering (B.E) and Masters in Business Administration (MBA), he



joined Civil Services. He has enough exposure to different managerial capacities dealing with, Information Technology, Finance, Operations, Coordination, Infrastructure Development, Maintenance of Law & Order, Revenue Collection, Social and Community Services, Relief, Rescue and Rehabilitation Operations, Governance, Education, Primary Healthcare, Training & Capacity Building, Institutional Development and Public Administration and have demonstrated effectiveness in contributing substantially to improving the service delivery of Government/Social Sector institutions.

He spearheaded different teams at middle and senior level management positions and currently affiliated with policy making role. He has in-depth practical knowledge and working experience at senior positions in Government of Sindh (1996-2022), Federal Board of Revenue (FBR) (2002-06), National Commission for Human Development (2006-08), Peoples Primary Healthcare Initiative (2008-13), FBR (2013-2016), Ministry of Overseas Pakistanis and HRD (2016-2020), FBR (2020-22), Sindh Revenue Board (2022). He had an opportunity to serve in Pakistan Mission abroad as Community Welfare Counselor for more than four years which gave him an added exposure to Pakistan's export potential in terms of Human resource and issues/policies relating to Pakistani diaspora abroad.

He is currently working as Executive Director in State Life Corporation of Pakistan looking after Real Estate and Policy Holder Service divisions. He is also on Board of Directors of Alpha Insurance Company.

3.2 DIRECTORS DIRECTORSHIP IN OTHER COMPANIES

S. No.	Name	Designation	Directorship in Other Companies
1	Mr. Arif Faruque	Chairman	Cherat Cement Company Ltd. Cherat Packaging Ltd. Faruque (Pvt.) Ltd. UniEnergy Ltd.
2	Mr. Aslam Faruque	Chief Executive	Cherat Packaging Ltd. Greaves Engineering Services (Pvt.) Ltd. Greaves Airconditioning (Pvt.) Ltd. Unicol Ltd. UniEnergy Ltd.
3	Mr. Amer Faruque	Non-Executive Director	Cherat Packaging Ltd. Faruque (Pvt.) Ltd. Greaves Pakistan (Pvt.) Ltd. Greaves CNG (Pvt.) Ltd.
4	Ms. Farzana Faruque	Non-Executive Director	-
5	Mr. Wasif Khalid	Executive Director	Greaves Airconditioning (Pvt.) Ltd. Greaves CNG (Pvt.) Ltd. Greaves Engineering Services (Pvt.) Ltd.
6	Mr. Hasan Reza Ur Rahim	Independent Director	Atlas Insurance Limited
7	Mr. Abdul Shakoor Shaikh	Independent Director	State Life Corporation of Pakistan Alpha Insurance Company Limited

3.3 PROFILE OF SPONSORS OF THE COMPANY

1. FARUQUE (PRIVATE) LIMITED

Faruque (Private) Limited was established/incorporated in 1964 as a Parent Company of the Ghulam Faruque Group. It primarily serves as an investment arm of the Group.


1.1 LIST OF SHAREHOLDERS OF FARUQUE (PRIVATE) LIMITED

S. No.	Name	No. of Shares held	Shareholding (%)
1	Mr. Arif Dino Faruque	80,690	20.00%
2	Ms. Yasmin Shah	40,345	10.00%
3	Mr. Azam Faruque	32,276	8.00%
4	Mr. Shehryar Faruque	26,900	6.67%
5	Ms. Zeeba Hassan	26,900	6.67%
6	Mr. Amer Faruque	26,895	6.67%
7	Mr. Omar Faruque	26,895	6.67%
8	Ms. Natasha Faruque	26,895	6.67%
9	Ms. Nagina Faruque	26,895	6.67%
10	Mr. Tariq Faruque	24,207	6.00%
11	Ms. Alina Faruque	16,138	4.00%
12	Ms. Deenah Faruque	16,138	4.00%
13	Ms. Amina Faruque	16,138	4.00%
14	Ms. Sehar Bano Rizvi	16,138	4.00%
	Total	403,450	100.00%

1.2 LIST OF DIRECTORS OF FARUQUE (PRIVATE) LIMITED

S. No.	Name	Designation
1	Mr. Arif Dino Faruque	Chief Executive Officer
2	Mr. Azam Faruque	Director
3	Mr. Amer Faruque	Director
4	Mr. Shehryar Faruque	Director

**2. MR. ARIF FARUQUE
CHAIRMAN**

Mr. Arif Faruque is a Swiss - qualified Attorney-at-Law, also holds Masters degrees in both Law and Business Administration from the United States of America and has recently completed the Owner President Management Program at Harvard Business School. He is the Chief Executive of Faruque (Pvt.) Ltd. He is on the Board of Directors of Cherat Packaging Ltd., Cherat Cement Company Ltd. and UniEnergy Ltd. Besides the above, he is also a member of the Board of Governors of Lahore University of Management Sciences (LUMS).

**3. MR. ASLAM FARUQUE
CHIEF EXECUTIVE**

Mr. Aslam Faruque is a graduate with a major in Marketing. He is the Chief Executive of Mirpurkhas Sugar Mills Ltd., Unicol Ltd. and UniEnergy Ltd. He is on the Board of Directors of



Cherat Packaging Ltd. Greaves Airconditioning (Pvt.) Ltd. and Greaves Engineering Services (Pvt.) Ltd.

In the past, he has served as the Chairman and Senior Vice Chairman of Pakistan Sugar Mills Association - Center. He also served as Chairman of Pakistan Sugar Mills Association Sindh Zone, and Director of Sui Southern Gas Company Ltd., State Life Insurance Corporation of Pakistan and Pakistan Industrial Development Corporation.

4. MR. AMER FARUQUE DIRECTOR

Mr. Amer Faruque is a Bachelor of Science (BS) graduate in Business Administration majoring in Management / Marketing from Drake University, Des Moines, Iowa, USA. He is the Chief Executive of Cherat Packaging Limited. He serves as a member of the Board of Directors of Faruque (Pvt.) Ltd., Greaves Pakistan (Pvt.) Ltd., Greaves CNG (Pvt.) Ltd. and Executive Director Marketing of Cherat Cement Co. Ltd. In the past he has served as a member of the Board of Governors of Ghulam Ishaq Khan (GIK) Institute of Engineering Sciences and Technology and Lahore University of Management Sciences (LUMS) and the Centre of International Private Enterprise (CIPE). He is also the Honorary Consul of Brazil in Peshawar.

4 FINANCIAL DETAILS OF THE ISSUER

4.1 FINANCIAL HIGHLIGHTS OF THE ISSUER FOR THE LAST THREE YEARS

	FY2023	FY2022	FY2021
<i>Amounts in PKR Million</i>			
Name of the Statutory Auditor	Kreston Hyder Bhimji & Co. Chartered Accountants		
Revenue / Sales	7,779	4,833	3,861
Gross Profit	1,363	478	283
Profit before interest and tax	2,178	729	444
Profit after tax	839	204	140
Net profit	839	204	140
Accumulated profit	2,392	1,584	1,214
Total Assets	13,824	10,224	7,744
Total Liabilities	9,732	7,113	4,518
Net equity	4,092	3,111	3,226
Break-up value per share (PKR) ⁸	87.89	66.82	69.29
Earnings per share (PKR) ⁹	18.03	4.37	3.01
Cash Dividend (%)	-	-	-
Bonus Issue (%)	200	15	-

⁸ The Breakup value per share is calculated as follows: Total Equity divided by number of shares. Figures for FY2022 and FY2021 are restated, based on weighted average number of ordinary shares in issue.

⁹ Figures for FY2022 and FY2021 are restated, based on weighted average number of ordinary shares in issue

**4.2 FINANCIAL HIGHLIGHTS OF PRECEDING ONE YEAR OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

Not Applicable

4.3 DETAILS OF ISSUE OF CAPITAL IN PREVIOUS FIVE YEARS**Bonus Issue:**

Particulars	FY 2023	FY 2022	FY 2021	FY 2020	FY 2019
Percentage	200%	15%	-	-	10%
Number of shares	31,038,592	2,024,256	-	-	1,226,821
Capital Raised (PKR)	310,385,920	20,242,560	-	-	12,268,210
Unsubscribed Portion (PKR)	N/A	N/A	-	-	N/A
Unsubscribed portion allotted by BOD	N/A	N/A	-	-	N/A
Unsubscribed portion taken up by the Underwriter	N/A	N/A	-	-	N/A
Proceed utilization break up	N/A	N/A	-	-	N/A

Rights Issue:

No rights issue was made in the last five years.

4.4 AVERAGE MARKET PRICE OF THE SHARE OF THE ISSUER DURING THE LAST SIX MONTHS

Average market price of the share of Mirpurkhas Sugar Mills Limited during the last six months (from July 26, 2023 -- January 26, 2024) is PKR 54.29 per share.

4.5 SHARE CAPITAL AND RELATED MATTERS**4.5.1 Pattern of Shareholding of the Issuer:**

Categories of shareholders	No. of Shares Held	% holding
<i>Directors, Chief Executive Officer and their spouse(s) and minor children</i>		
Mr. Arif Dino Faruque	102,678	0.22%
Mr. Aslam Faruque	286,173	0.61%
Mr. Amer Faruque	30,108	0.06%
Mr. Wasif Khalid	15,189	0.03%
Mr. Hasan Reza Ur Rahim	3	0.00%
Sub total	434,151	0.93%
<i>Associated Companies, undertakings and related parties</i>		
Faruque (Private) Limited	19,286,163	41.42%
Cherat Cement Company Limited	996,186	2.14%
Greaves Pakistan (Private) Limited	1,110,927	2.39%
Sub total	21,393,276	45.95%
NIT and ICP	2,355	0.01%
Insurance Companies	1,193,646	2.56%
Banks, DFI, NBFC	102,933	0.22%
Modarabas and Mutual Funds	4,314,111	9.27%
<i>General Public</i>		
A) Local	13,763,987	29.56%
B) Foreign	211,478	0.45%
Others	5,141,951	11.04%
Total	46,557,888	100.00%



4.5.2 Shares held by Directors, Sponsors and Substantial Shareholders of the Issuer (both Existing and Post Right Issue):

Shares held by	Existing Shareholding	% share holding	Post Right Shareholding	%
Directors	<i>Shares held</i>	<i>%</i>	<i>Shares held</i>	<i>%</i>
Mr. Aslam Faruque	286,173	0.61%	409,104	0.61%
Mr. Arif Dino Faruque	102,678	0.22%	102,678	0.15%
Mr. Amer Faruque	30,108	0.06%	43,041	0.06%
Mr. Wasif Khalid	15,189	0.03%	21,713	0.03%
Mr. Hasan Reza Ur Rahim	3	0.00%	4	0.00%
Substantial Shareholders				
Faruque (Private) Limited	19,286,163	41.42%	27,615,027	41.49%

Details and shareholding of holding company:

N/A

5. RISK FACTORS

5.1 RISK ASSOCIATED WITH THE RIGHT ISSUE

Undersubscription Risk

There is a risk that the right issue may get undersubscribed due to lack of interest from shareholders of the Company. The Right Issue of the Company is being carried out at a price which is less than the current share price in the market and hence there is no major investment risk associated with the Right Issue. The substantial shareholder and directors of the Company have confirmed that they shall subscribe to (or arrange the subscription of) their respective right entitlements, while the balance portion of the Right Issue will be underwritten in accordance with the applicable laws.

5.2 RISK ASSOCIATED WITH ISSUER

1. Internal Risk Factors

Operational Risk

Operational risk summarizes the uncertainties and hazards a business faces when it attempts to conduct its day-to-day business activities specifically in relation to plant operations. It can result from breakdowns in internal procedures, people and systems.

A high turnover ratio of skilled staff, disruption in the Company's supply chain, or inappropriate planning could be a major determinant to operational risk for the Company, specifically with training of employees for operating paper mill and retaining skillful staff for the mill as the paper industry and its skilled staff is mainly Punjab based.

Procurement Risk



Sugarcane is the main raw material for sugar production and contributes approx. 82% to 90% of the total cost of production whereas Old Corrugated Cartons (OCC) cost accounts for approx. 60% of the paper cost and OCC is partly imported as well. Sugarcane prices are regulated by the Provincial Government and sugarcane availability is dependent on climatic conditions, availability of irrigation water in Sindh as well as cultivation of sugarcane vs other crops patterns and national agriculture policies. Any disturbance in its timely availability and increase in prices by the Provincial Government will have a substantial impact on the operations and operational cost. This in turn has a significant adverse effect on costs since the market value does not factor the variable cost determined by the climatic conditions and the sugarcane economics. The extent of volatility in raw material quality is another key element. OCC imports can be affected by import bans and economic conditions of the exporting countries.

The Company mitigates these risks through active engagement with farmers and raw material suppliers. The risk of raw material short supply and quality is mitigated to a large extent by educating farmers with latest sugarcane cultivating techniques, practical application by demonstration plot at farmer's lands combined with Company's goodwill, long term relationship and reputation for timely payments earned by the Company since inception. The Company also provides harvesting advance to growers. For OCC, the Company strives to have long term arrangements with the suppliers and continuous engagements with respect to the quality issues as well as timely payments.

Credit Risk

Credit risk is the risk which arises with the possibility that one party to a financial instrument will fail to discharge its obligation and cause the other party to incur a financial loss. The Company attempts to control credit risk by monitoring credit exposure, limiting transactions with specific counter parties and continually assessing the credit worthiness of counter parties. Traditionally, sugar sales have been routed through dealers on advance terms of payment. In order to pursue the objective of market penetration, Institution buyers are extended credits. Paper sales is also on credit. There is a risk factor of default in payments by customers thus could cause a financial loss.

However, the company has deployed efficient policies and checks to control credit risk as such that the Company regularly analyzes the Credit risk worthiness of the Customers and extends credit accordingly. The Company has a formal credit policy in place. Where necessary postdated cheques are taken from credit customers and the Company works on local LC where required.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Liquidity risk arises because of the possibility that the Company could be required to pay its liabilities earlier than expected or difficulty in raising funds to meet commitments associated with financial liabilities as they fall due.

While sugarcane procurement is concentrated between November to April every year, whereas, the sale of sugar lasts throughout the year. Therefore, Company needs to efficiently manage its working capital requirements considering the sugarcane procurement price and fluctuating prices of sugar. Paper division also requires working capital due to credit sales and reliance on imported raw material along with routine admin and selling expenses.

The Company's approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without



incurring unacceptable losses or risking damage to the Company's reputation. The Company ensures that it has sufficient cash to meet expected working capital requirements by having credit lines available. As at September 2023, the Company had unused credit facilities of Rs. 4,378 million.

Pending Litigation

Details of all material legal proceeding are mentioned under Section 6 of the Offer Document. The management of the Company is confident of a favourable outcome of these proceeding.

Risk of Non-compliance with Regulations of SECP and PSX

In the event of non-compliance with any regulatory requirements of SECP or PSX, the Company may be placed on Defaulter Segment of PSX which may potentially hamper trading in the Company's shares leading up to potential suspension in trading of its shares as well as delisting.

2. External Risk Factors

Business Risk

Business risk is the possibility of the Company reporting lower than anticipated profits or loss due to factors such as:

- Increase in input costs such as raw material i.e. Sugarcane which are based on regulated sugarcane pricing
- Increase in spares and maintenance cost
- Increase in minimum wages
- Decrease in sales volume due to cyclical nature of sugar business, gluts and shortages affect revenues
- Decrease in sugar prices as they are also monitored by the Federal Government through interventions from time to time
- Increase in transportation costs due to fuel prices and axle load conditions
- Decrease in customer demand due to economic slowdown, rising Inflation, etc
- Reduce recovery percentage of sugarcane and OCC.

Government Policy Risk

Provincial government regulates the sugarcane policies and it has a larger control on this industry by determining the raw material price and also influence the sugar mills operational commencement through various statutes. The Federal government regulates the export of sugar. Hence, a sugar company's risk profile is vulnerable to government policies. These policies influence cost of production of sugar through regulated sugarcane pricing and revenue through its regulated export / import permissions.

The Company works closely with the sugar association developing appropriate policy recommendations to represent the industry needs to the Federal and Provincial governments.

Interest Rate Risk



Interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in the market interest rates. As per market practices, Company's borrowings are on variable interest rate exposing the Company to interest rate risk. When interest rates are high, borrowing costs increase, making it more expensive for the Company to finance its operations. This can lead to reduced business spending, lower economic growth, and decreased profitability. It also discourages business investment as financing new projects becomes more expensive.

Commodity Risk

Commodity risk in the sugar industry is a multifaceted challenge that encompasses various factors. Price volatility, influenced by factors such as weather conditions, government policies, cyclical nature of business and global supply and demand dynamics, poses a significant risk to producers, traders, and consumers. Additionally, the inherent susceptibility of sugarcane crops to natural disasters and diseases further compounds the commodity risk.

Being an essential commodity, sugar and sugarcane prices and sugar stock are regulated or monitored by the Provincial and Federal Government. The Company insulates itself against price risk by selling portion of its sugar to contractual buyers such as pharma and food companies, consistent selling policy throughout the year to average-out price fluctuations and venturing into new businesses such as into paper mill.

Natural Disaster Risk

Destruction of manufactured facility due to natural disaster. The Company has comprehensive insurance cover in case of any catastrophic event. Further, the Company has taken into account every possible aspect of safety measures during construction and erection of building and plant. Company has well established disaster recovery plan and data backup facility to cope-up uncertain events. The Company has adequate firefighting arrangements at the factory premises.

Foreign exchange Risk

Foreign currency risk is the risk that fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of the change in foreign exchange rates. The Company's exposure to this risk arises mainly from future economic transactions or receivables and payables that exist due to transactions entered into foreign currencies. The Company is exposed to foreign currency risk arising from foreign exchange fluctuations primarily with respect to the CNY and USD. The Company manages foreign currency risk through due monitoring of the exchange rates, adjusting net exposure and obtaining forward covers where necessary. Presently Company is exposed to foreign currency risk, in respect of L/Cs opened for import of raw materials and spares.

NOTE: IT IS STATED THAT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND BELIEF, ALL MATERIAL RISK FACTORS HAVE BEEN DISCLOSED AND THAT NOTHING HAS BEEN CONCEALED IN THIS RESPECT.

6 LEGAL PROCEEDINGS:

6.1 OUTSTANDING LEGAL PROCEEDINGS OF THE COMPANY

These are routine litigations incidental to the business operations, to which the Company is a party that may have a material impact on the Company. Moreover, these litigation matters have already been disclosed in the audited financial statements for the year ended September 30, 2023 and may be referred to for further details.



S. No.	<u>Case Number</u>	<u>Case Title</u>	<u>Institution Date</u>	<u>Issuing Authority</u>	<u>Tax Period</u>	<u>Order Amount / Financial Impact (PKR/ Mn)</u>	<u>Current Status</u>	<u>Comments of Management/ Legal Advisor</u>
1	Civil Review No.960/2023	Mirpurkhas Sugar Mills Ltd & others V/S The Government of Sindh The Chief Secretary, Karachi & others	06-12-2023	The Supreme Court of Pakistan	-	152 million	The said matter is pending before Honorable Supreme Court of Pakistan	Probability of outcome of the case in favor of the Company is higher
2	Civil Appeal No 754/2013 out of CPLA No 182-K/2013	The Commission Inland Revenue (FBR) V/S Mirpurkhas Sugar Mills Limited	27-06-2013	The Supreme Court of Pakistan	July 2007 to June 2011	-	Judgment Reserved	Probability of outcome of the case in favor of the Company is higher
3	Civil Appeal No 3159/2022 out of C.P No.3305/2022	Mirpurkhas Sugar Mills Limited, Karachi V/S Province of Sindh through the Secretary, Excise & Taxation Department Sindh, Karachi and others	11-11-2022	The Supreme Court of Pakistan	-	18.18 million	The said matter is pending before Honorable Supreme Court of Pakistan	Probability of outcome of the case in favor of the Company is higher
4	C.P.No: 318/2022	Mirpurkhas Sugar Mills & others V/S Federation of Pakistan	10-02-2022	The Supreme Court of Pakistan	-	-	The said matter is pending before Honorable Supreme Court of Pakistan	Probability of outcome of the case in favor of the Company is higher



5	Const P. No.7951/2017	Syed Mureed Ali Shah V/S Province of Sindh and others	22-11-2017	The Sindh High Court Karachi	-	266.05 million	The said matter is pending before Honorable Sindh High Court Karachi	Probability of outcome of the case in favor of the Company is remote
6	Const. P. (D) 8666/2017	Mirpurkhas Sugar Mills and others V/S Govt. of Sindh and others	19-12-2017	The Sindh High Court Karachi	-	-	The said matter is pending before Honorable Sindh High Court Karachi	Probability of outcome of the case in favor of the Company is higher
7	Suit No. 701/2000	Mirpurkhas Sugar Mills and others V/S Govt. of Sindh and others	25-05-2000	The Sindh High Court Karachi	-	3.83 million	The said matter is pending before Honorable Sindh High Court Karachi	Probability of outcome of the case in favor of the Company is higher
8	Suit No. 41/2001	Mirpurkhas Sugar Mills and others V/S Govt. of Sindh and others	19-1-2001	The Sindh High Court Karachi	-	1.916 million	The said matter is pending before Honorable Sindh High Court Karachi	Probability of outcome of the case in favor of the Company is higher
9	H.C.A (D) 65/2023	Ansari Sugar Mills Limited & others V/S JK Sugar Mills Private Limited and others	09-03-2023	The Sindh High Court Karachi	-	47.38 million	The said matter is pending before Honorable Sindh High Court Karachi	Probability of outcome of the case in favor of the Company is higher
10	Const. P. (D) 654/2023	Mirpurkhas Sugar Mills & others V/S Federation of Pakistan	30-01-2023	The Sindh High Court Karachi	-	-	The said matter is pending before Honorable Sindh High Court Karachi	Probability of outcome of the case in favor of the Company is higher



11	Suit 2272/2021	Pakistan Sugar Mills Association & others V/S Federation of Pakistan & others	07-10- 2021	The Sindh High Court Karachi	-	236 million	The said matter is pending before Honorable Sindh High Court Karachi.	Probability of outcome of the case in favor of the Company is higher
12	Spl. FERA 28/2016	Commission er Inland Revenue Zone-II V/S Mirpurkhas Sugar Mills Limited	21-07- 2016	The Sindh High Court Karachi	2015	81 million	The said matter is pending before Honorable Sindh High Court Karachi	Probability of outcome of the case in favor of the Company is higher
13	Const. P. (D) 3475/2020	Mirpurkhas Sugar Mills Ltd V/S Province of Sindh and Others	29-06- 2020	The Sindh High Court Karachi	2018-19	12.64 million	The said matter is pending before Honorable Sindh High Court Karachi	Probability of outcome of the case in favor of the Company is higher

6.2 Any outstanding legal proceeding other than the normal course of business involving the issuer, its sponsors, substantial shareholders, directors and associated companies, over which the Issuer has control, that could have material impact on the issuer.

None

6.3 Action taken by the securities exchange against the issuer or associated listed companies of the issuer during the last three years due to noncompliance of its regulations.

None



7 SIGNATORIES TO THE OFFER DOCUMENT

SIGNATORIES TO THE OFFER DOCUMENT

Mr. Arif Faruque
Chairman

Mr. Aslam Faruque
Chief Executive Officer

Mr. Amer Faruque
Director

Ms. Farzana Faruque
Director

Mr. Wasif Khalid
Director

Mr. Hasan Reza Ur Rahim
Director

Mr. Abdul Shakoor Shaikh
Director

Signed by the above in the presence of witnesses:

Name: Syed Shahid Ali Shah
42101-2602124-1

Name: Atsah Junaid
42201.0516799-9

Certified by:

MUHAMMAD JUNAID
COMPANY SECRETARY

Dated: March 28, 2024




7 مئی 2024ء کی تاریخ پر منظور شدہ


SIGNATORIES TO THE OFFER DOCUMENT


Mr. Arif Faruque
Chairman


Mr. Aslam Faruque
Chief Executive Officer


Mr. Amer Faruque
Director



Ms. Farzana Faruque
Director



Mr. Wasif Khalid
Director


Mr. Hasan Reza Ur Rahim
Director



Mr. Abdul Shakoore Shaikh
Director

Signed by the above in the presence of witnesses:


Name: Syed Shahid Ahmad
92001-2862124-1


Name: Anam Junaid
42201.0516799-9

Certified by:


MUHAMMAD JUNAID
COMPANY SECRETARY

تاریخ: 28 مارچ 2024



کس کا نتیجہ کھلی کتنے میں آئے کا امکان زیادہ ہے	دھکوروہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ کراچی میں زیر التوا ہے۔	236 ملین	-	سندھ ہائی کورٹ کراچی	07-10-2021	پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن اور دیگر بہتقا لائیڈ پرائیمریشن آف پاکستان اور دیگر	سوت نمبر 2272/2021	۱۱
کس کا نتیجہ کھلی کتنے میں آئے کا امکان زیادہ ہے	دھکوروہ معاملہ معزز سندھ ہائی کورٹ کراچی میں زیر التوا	81 ملین	2015	سندھ ہائی کورٹ کراچی	21-07-2016	ککشران لینڈ ریویو تھرون-II S/V	انسٹی ایبل نمبر 28/2016	۱۲
کس کا نتیجہ کھلی کتنے میں آئے کا امکان زیادہ ہے	دھکوروہ معاملہ معزز سندھ ہائی کورٹ کراچی میں زیر التوا	12.64 ملین	2018-19	سندھ ہائی کورٹ کراچی	29-06-2020	میر پورخاص شوگر ملز لیٹڈ بہتقا لمیٹڈ برآمدہ اور دیگر	سی پی نمبر 3476/2020	۱۳

6.2 اجراء کٹمنڈہ اس کے اسپانسرز ایم پیٹرز ہولڈرز، ڈائریکٹرز اور صحافتہ کمپنیاں، جس پر اجراء کٹمنڈہ کا کنٹرول ہے، کا روبر کے معمول کے طریقہ کار کے علاوہ کوئی بھی باقاعدہ قانونی کارروائی اجراء کٹمنڈہ پر مادی اثر ڈال سکتی ہے۔

کوئی نہیں۔

6.3 سکچو ریٹرز کی پیشگی کی جانب سے اجراء کٹمنڈہ یا اس سے منسلک ایڈیٹور کمپنیوں کے خلاف گزشتہ تین سالوں کے دوران اس کے ضوابط کی عدم تعمیل کی وجہ سے کی گئی کارروائی۔

کوئی نہیں۔


قانونی مقدمات 6
6.1 کھیتی کے ذریعہ قانونی مقدمات

یہ کاروباری امور سے متعلق معمول کی قانونی کارروائیاں ہیں، جن میں کھیتی ایک فریٹ ہے جس کا کھیتی پر مادی اثر ہو سکتا ہے۔ مزید برآں، قانونی چارہ جوئی کے ان معاملات کو 30 ستمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں میں پبلک ہی ٹاؤن کیا جا چکا ہے اور مزید تفصیلات کی صورت میں ان کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔

سرٹیفکٹ نمبر	کیس نمبر	کیس کی تاریخ	اور کی تاریخ	ماہ نام	جس کی مدت	آڈٹ کی رقم / ایم این ڈی (Mn/PKR)	موجودہ صورت حال	قانونی خبر کے تجربے
۱	سول ریویو نمبر 2023/960	میرپورخاص شوگر ملز ایجنڈا اور دیگر متعلقہ حکومت - مندرجہ ذیل کی سرکاری کراچی اور دیگر	06-12-2023	پریم کورٹ آف پاکستان	-	152 ملین	ڈیکورڈ معاملہ پریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے	کیس کا نتیجہ کھیتی کے حق میں آنے کا امکان زیادہ ہے۔
۲	سی پی ای اے نمبر 182-K/2013 میں سے سول اپیل نمبر 754/2013	کیس میں ان لینڈ ریوینو (FBR) کے متعلقہ میرپورخاص شوگر ملز ایجنڈا اور دیگر	27-06-2013	پریم کورٹ آف پاکستان	جولائی 2007ء تا دسمبر 2011ء	-	فیملڈ ٹیپوٹ	کیس کا نتیجہ کھیتی کے حق میں آنے کا امکان زیادہ ہے۔
۳	سی پی نمبر 3305/2022 میں سے سول اپیل نمبر 3159/2022	میرپورخاص شوگر ملز ایجنڈا اور دیگر متعلقہ حکومت - مندرجہ ذیل کی سرکاری کراچی اور دیگر	11-11-2022	پریم کورٹ آف پاکستان	-	18.18 ملین	ڈیکورڈ معاملہ پریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے	کیس کا نتیجہ کھیتی کے حق میں آنے کا امکان زیادہ ہے۔
۴	سی پی نمبر 318/2022	میرپورخاص شوگر ملز ایجنڈا اور دیگر متعلقہ حکومت - مندرجہ ذیل کی سرکاری کراچی اور دیگر	10-02-2022	پریم کورٹ آف پاکستان	-	-	ڈیکورڈ معاملہ پریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے	کیس کا نتیجہ کھیتی کے حق میں آنے کا امکان زیادہ ہے۔
۵	سی پی نمبر 2017/7951	سید علی شاہ، ہتھکڑی، مندرجہ ذیل کی سرکاری کراچی اور دیگر	22-11-2017	مندرجہ ذیل کی کورٹ کراچی	-	266.05 ملین	ڈیکورڈ معاملہ مندرجہ ذیل کی کورٹ کراچی میں زیر التوا ہے۔	کھیتی کے حق میں کیس کے نتیجہ کا امکان بہت دور ہے۔
۶	سی پی نمبر 2017/8666	میرپورخاص شوگر ملز ایجنڈا اور دیگر متعلقہ حکومت - مندرجہ ذیل کی سرکاری کراچی اور دیگر	19-12-2017	مندرجہ ذیل کی کورٹ کراچی	-	-	ڈیکورڈ معاملہ مندرجہ ذیل کی کورٹ کراچی میں زیر التوا ہے۔	کیس کا نتیجہ کھیتی کے حق میں آنے کا امکان زیادہ ہے۔
۷	سولٹ نمبر 2000/701	میرپورخاص شوگر ملز ایجنڈا اور دیگر متعلقہ حکومت - مندرجہ ذیل کی سرکاری کراچی اور دیگر	25-05-2000	مندرجہ ذیل کی کورٹ کراچی	-	3.83 ملین	ڈیکورڈ معاملہ مندرجہ ذیل کی کورٹ کراچی میں زیر التوا ہے۔	کیس کا نتیجہ کھیتی کے حق میں آنے کا امکان زیادہ ہے۔
۸	سولٹ نمبر 2001/41	میرپورخاص شوگر ملز ایجنڈا اور دیگر متعلقہ حکومت - مندرجہ ذیل کی سرکاری کراچی اور دیگر	19-1-2001	مندرجہ ذیل کی کورٹ کراچی	-	1.916 ملین	ڈیکورڈ معاملہ مندرجہ ذیل کی کورٹ کراچی میں زیر التوا ہے۔	کیس کا نتیجہ کھیتی کے حق میں آنے کا امکان زیادہ ہے۔
۹	اچھی سے اے نمبر 2023/65	انصاری شوگر ملز ایجنڈا اور دیگر متعلقہ حکومت - مندرجہ ذیل کی سرکاری کراچی اور دیگر	09-03-2023	مندرجہ ذیل کی کورٹ کراچی	-	47.38 ملین	ڈیکورڈ معاملہ مندرجہ ذیل کی کورٹ کراچی میں زیر التوا ہے۔	کیس کا نتیجہ کھیتی کے حق میں آنے کا امکان زیادہ ہے۔
۱۰	سی پی نمبر 654/2023	میرپورخاص شوگر ملز ایجنڈا اور دیگر متعلقہ حکومت - مندرجہ ذیل کی سرکاری کراچی اور دیگر	30-01-2023	مندرجہ ذیل کی کورٹ کراچی	-	-	ڈیکورڈ معاملہ مندرجہ ذیل کی کورٹ کراچی میں زیر التوا ہے۔	کیس کا نتیجہ کھیتی کے حق میں آنے کا امکان زیادہ ہے۔



سوڈی شرح کا خطرہ

شرح سوڈ کا خطرہ وہ خطرہ ہے جو مارکیٹ کی شرح سوڈ میں تبدیلی کی وجہ سے مالیاتی معاہدوں کی قدر میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ مارکیٹ کے طریقوں کے مطابق، کمپنی کے قرضے متغیر سوڈ کی شرح پر ہوتے ہیں جو کمپنی کو شرح سوڈ کے خطرے سے دوچار کرتے ہیں۔ جب شرح سوڈ زیادہ ہوتی ہے تو قرض لینے کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جس سے کمپنی کے لیے اپنے کاموں کی مالی اعانت زیادہ ہنگامی ہو جاتی ہے۔ یہ کاروباری اخراجات میں کمی، کم اقتصادی ترقی، اور کم منافع کی لے جاتا ہے۔ یہ کاروباری سرمایہ کاری کی بھی حوصلہ شکنی کرتا ہے کیونکہ نئے منصوبوں کی مالی اعانت زیادہ ہنگامی ہو جاتی ہے۔

اجناس کا خطرہ

چینی کی صنعت میں اجناس کا خطرہ ایک کثیر جہتی چیلنج ہے جس میں مختلف عوامل شامل ہیں۔ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، موسمی حالات، بجھوتی پالیسیاں، کاروباری متغیر اتانومیت اور عالمی رسد اور طلب کے تمام پہلو، جن سے، پروڈیوسروں، تاجروں اور صارفین کو ایک بڑا خطرہ لاحق ہے۔ مزید برآں، قدرتی آفات اور بیماریوں کے لئے گندے فصل کی موروثی حساسیت اجناس کے خطرے کو مزید بڑھا دیتی ہے۔

ایک ضروری عنصر ہونے کے ناطے چینی اور گندے کی قیمتیں اور چینی کا ذخیرہ صوبائی اور وفاقی حکومت کے ذریعے ریگولیشن یا مینٹر کیا جاتا ہے۔ کمپنی اپنی چینی کا کچھ حصہ کنٹریکٹ خریداروں جیسے فارما اور فوڈ کمپنیوں کو بیچ کر، قیمتوں کے اوسط اتار چڑھاؤ کے لیے سال بھر مسلسل فروخت کی پالیسی اور بیچ پرل جیسے نئے کاروبار میں قدم رکھ کر قیمت کے خطرے سے خود کو محفوظ رکھتی ہے۔

قدرتی آفات کا خطرہ

قدرتی آفات کی وجہ سے تیار شدہ ہولت کی تباہی۔ کمپنی کے پاس کسی بھی ناگہانی واقعے کی صورت میں جامع انشورنس کور ہے۔ مزید یہ کہ کمپنی نے عمارت کی تعمیر اور پلانٹ کو تکیا کرنے کے دوران حفاظتی اقدامات کے ہر ممکن پہلو کو مد نظر رکھا ہے۔ کمپنی نے غیر یقینی واقعات سے نمٹنے کے لیے ناگہانی آفت سے نمٹنے کا منصوبہ اور ڈیٹا ایک اپ کی سہولت اچھی طرح سے موجود ہے۔ کمپنی کے پاس فیکٹری کے احاطے میں آگ بجھانے کے مناسب انتظامات ہیں۔

غیر ملکی کرنسی کا خطرہ

غیر ملکی کرنسی کا خطرہ وہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے غیر ملکی کرنسی کی شرح میں تبدیلی کی وجہ سے کسی مالیاتی انسٹرومنٹ کی منصفانہ قیمت یا مستقبل میں کیش فلو میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ بنیادی طور پر کمپنی کو اس خطرے کا سامنا مستقبل کے معاشی لین و دین یا قابل وصول اور قابل ادائیگیوں سے ہوتا ہے جو غیر ملکی کرنسیوں میں لین و دین کی وجہ سے موجود ہوتا ہے۔ کمپنی بنیادی طور پر CNY اور USD کے حوالے سے غیر ملکی کرنسی کے اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والے غیر ملکی کرنسی کے خطرے سے دوچار ہے۔ کمپنی زرمبادلہ کی شرحوں کی مناسب نگرانی، کم از کم کوالیٹی جسٹ کرنے اور جہاں ضروری ہو فارورڈ کور حاصل کرنے کے ذریعے غیر ملکی کرنسی کے خطرے سے بچنے کا انتظام کرتی ہے۔ فی الحال کمپنی تمام مال اور اسپیریٹری درآمد کے لیے کھولنی گئی Cs/L کے سلسلے میں غیر ملکی کرنسی کے خطرے سے دوچار ہے۔

نوٹ:

یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری معلومات اور یقین کے مطابق تمام مادی خطرے کے گوال کو طے کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کچھ بھی چھپایا نہیں گیا ہے۔



لیکویڈیٹریٹک

لیکویڈیٹریٹک وہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے کمپنی کو مالی ذمہ داریوں سے وابستہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا جو نقد یا دوسرے مالیاتی اثاثے کی فراہمی کے ذریعے طے کی جاتی ہیں۔ لیکویڈیٹریٹک کا خطرہ اس امکان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ کمپنی کو توقع سے پہلے اپنی واجبات کی ادائیگی کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا مالیاتی واجبات سے وابستہ وعدوں کو پورا کرنے کے لیے فیڈ زنجیر کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

جبکہ گئے کی خریداری ہر سال نوہرے تا پریل کے درمیان مرکوز ہوتی ہے، جبکہ چینی کی فروخت سال بھر جاری رہتی ہے۔ لہذا، کمپنی کو گئے کی خریداری کی قیمت اور چینی کی اتار چڑھاؤ کی قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ورکنگ کپینل کی ضروریات کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ کریڈٹ کی فروخت اور عام انتظامی اور فروخت کے اخراجات کے ساتھ درآمد شدہ خام مال پر انحصاری وجہ سے پیپر ڈرو پزیشن اور ورکنگ کپینل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکویڈیٹریٹک کے انتظام کے لیے کمپنی کا نقطہ نظر، جہاں تک ممکن ہو، اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس کے پاس اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ کافی لیکویڈیٹریٹک ہوگی، جب کہ دونوں عام اور ڈاؤن لاء حالات میں، ناقابل قبول نقصان اٹھانے یا کمپنی کی سائیکلو نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہو۔ کمپنی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ متوقع ورکنگ کپینل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کثیر نقدی، بذریعہ کریڈٹ لائسنز دستیاب ہوں۔ ستمبر 2023 تک، کمپنی کے پاس 4,378 ملین روپے کی غیر استعمال شدہ کریڈٹ فیویلیٹ میسرمتھیں۔

ذرا ہوا مقدمات

تمام مادی قانونی اور روایتی کی تصفیعات پیشکش دستاویز کے سیکشن 6 کے تحت درج ہیں۔ کمپنی کی انتظامیہ کو ان کارروائیوں کے مثبت نتائج کا یقین ہے۔

SECP اور PSX کے ضوابط کی عدم تعمیل کا خطرہ

SECP یا PSX کے کسی بھی ریگولیٹری تقاضوں کی عدم تعمیل کی صورت میں، کمپنی کو PSX کے ذیلی طریقہ پر رکھا جاسکتا ہے جو مکمل طور پر کمپنی کے حصص کی تجارت میں رکاوٹ بن سکتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے حصص کی تجارت میں معطلی کے ساتھ ساتھ ڈی لسٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔

2 - سودی خطرات

کاروباری خطرہ

کاروباری خطرہ کمپنی کے متوقع منافع یا نقصان سے کم ہونے کا امکان ہے۔ ان عوامل کی وجہ سے جیسے کہ:

- ان ہٹ الاگت میں اضافہ جیسے خام مال جو کہ گئے کی ریگولیٹری قیمتوں پر مبنی ہیں۔
- اینٹیپیزر اور دیگر کچھ بھال کی الاگت میں اضافہ
- کم از کم اجرت میں اضافہ
- چینی کے کاروباری سٹیئر اینڈیومیت کی وجہ سے فروخت کے حجم میں کمی، گراؤ اور قلت آمدنی کو متاثر کرتی ہے۔
- چینی کی قیمتوں میں کمی کیونکہ وفاقی حکومت مداخلت کے ذریعے ان کی گرائی بھی کرتی ہے۔
- اینڈرسن کی قیمتوں اور ایکسل لوڈ کی صورت حال کی وجہ سے نقل و حمل کے اخراجات میں اضافہ
- معاشی سست روی اور افراط زر میں اضافے کی وجہ سے وغیرہ سے خریداری کی طلب میں کمی
- گئے اور ادنیٰ سی کی کم ریگولیٹری شرح

حکومتی پالیسی کا خطرہ

صوبائی حکومت گئے کی پالیسیوں کو ریگولیٹ کرتی ہے اور اس کا نام مال کی قیمت کا تعین کر کے اس صنعت پر بڑا کنٹرول ہوتا ہے اور مختلف قوانین کے ذریعے شوگر ملوں کے آپریشنل آغاز پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت چینی کی برآمد کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ لہذا، شوگر کمپنی کا ریسک پر وہاں چینی پالیسیوں کے لیے خطرناک ہے۔ یہ پالیسیاں گئے کی منصفیہ قیمتوں کے ذریعے چینی کی پیداواری الاگت اور اس کی منصفیہ ایکسپورٹ درآمد کی اجازتوں کے ذریعے آمدنی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

کمپنی شوگر ملز ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو صنعت کی ضروریات کی نمائندگی کرنے کے لیے مناسب پالیسی-غٹا ممبر مترب کرتی ہے۔



5. خطرات کے حوالے

5.1 رائٹ اجزام سے وابستہ خطرہ

کم خریداری کا خطرہ

اس بات کا خطرہ ہے کہ کپنی کے حصص یافتگان کی طرف سے دلچسپی کی کمی کی وجہ سے رائٹ اجزام سے منسلک رائٹ ہو سکتا ہے۔ کپنی کا رائٹ ایجو اس وقت پر کیا جا رہا ہے جو مارکیٹ میں موجودہ حصص کی قیمت سے کم ہے اور اس لیے رائٹ ایجو کے ساتھ کوئی بڑا سرمایہ کاری کا خطرہ نہیں ہے۔ کپنی کے نمایاں شیئر ہولڈرز اور ڈائریکٹرز نے یقین دلایا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ اسٹاک ہولڈر کے مطابق حصص کو سبسکرائب کریں گے (جسکے رائٹ اجزاء کا بچا ہوا حصہ قابل اطلاق قوانین کے مطابق ان شرائط کو رد کیا جائے گا۔

5.2 اجزام کنندہ کے ساتھ وابستہ خطرہ

1۔ اندرونی خطرے کے حوالے

آپریٹس ریسک

آپریٹس ریسک ایک کاروباری رننگ کی غیر یقینی صورتحال اور خطرات کا احاطہ کرتا ہے جب وہ اپنی روزمرہ کی کاروباری سرگرمیاں، خاص طور پر پلانٹ آپریشن کے سلسلے میں، کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا اندرونی طریقہ کار، لوگوں اور نظاموں میں خرابی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔

بہتر مندرجہ سلسلے کے چھوڑنے کا زیادہ تناسب، کپنی کی سپلائی چین میں رکاوٹ، یا نامناسب منصوبہ بندی کپنی کے لیے آپریٹس خطرے کا ایک بڑا عنصر ہو سکتی ہے، خاص طور پر بیچل چلانے کے لیے ملازمین کی تربیت اور مل کے لیے بہتر مندرجہ سلسلے کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا کیونکہ کاغذ کی صنعت اور اس کا بہتر مندرجہ بنیادی طور پر پنجاب میں قائم ہے۔

خریداری کا خطرہ

گنا چینی کی پیداوار کے لیے اہم خام مال ہے اور تقریباً پیداوار کی کل لاگت کا 82% سے 90% حصہ ڈالتا ہے۔ جبکہ پرانے کو روٹ ٹیڈ رائٹن (OCC) کی لاگت تقریباً 60% کاغذ کی لاگت ہے، اور OCC جزوی طور پر درآمد کی جاتا ہے۔ گنے کی قیمتوں کو صوبائی حکومت کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے اور گنے کی دستیابی کا انحصار موسمی حالات، مندرجہ میں آبپاشی کے پانی کی دستیابی کے ساتھ ساتھ گنے کی کاشت ہوتا بلکہ بڑھنے والی زرعی پالیسیوں پر ہوتا ہے۔ صوبائی حکومت کی طرف سے اس کی بروقت دستیابی اور قیمتوں میں اضافے میں کسی قسم کی رکاوٹ کا آپریشن اور آپریٹس لاگت پر کافی اثر پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں لاگت پر ایک اہم منفی اثر پڑتا ہے کیونکہ مارکیٹ و بیرونی موسمی حالات اور گنے کی کاروباری حالت سے متعلق متغیر لاگت کو متاثر نہیں کرتی۔ خام مال کے معیار میں اتار چڑھاؤ کی حد تک اور اہم عنصر ہے۔ اسی کی درآمدات درآمدی پابندیوں اور برآمد کنندگان کے معاشی حالات سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ کپنی کسانوں اور خام مال کے سپلائرز کے ساتھ فعال شمولیت کے ذریعے ان خطرات کو کم کرتی ہے۔ خام مال کی قلت اور معیار کے خطرے کو کاغذ کاروں کو گنے کی کاشت کی جدید ترین تکنیکوں سے آگاہ کر کے، اور ان کی تعلیمی زینوں پر عملی اطلاق کے ذریعے، طویل مدتی تعلقات اور کپنی کے آغاز سے بروقت اور ایکٹیو کی وجہ سے بنائی گئی ساتھ کے ذریعے کافی حد تک کم کیا جاتا ہے۔ کپنی کا شکار کو کٹائی کی فرہنگ بھی فراہم کرتی ہے۔ OCC کے لیے، کپنی سپلائرز کے ساتھ طویل مدتی انتظام اور معیار کے مسائل کے ساتھ ساتھ بروقت اور ایکٹیو کے حوالے سے مسلسل مشغول رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔

قرض کا خطرہ

کریڈٹ ریسک وہ خطرہ ہے جو اس امکان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ مالیاتی معاہدے کا ایک فریق اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائے گا اور دوسرے فریق کو مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کپنی قرض کے انتہائی نقصان کو گھرائی مخصوص کاؤنٹر پارٹیوں کے ساتھ ملین دین کو محدود کر کے اور کاؤنٹر پارٹیوں کی کریڈٹ کی اہلیت کا مسلسل جائزہ لے کر کریڈٹ ریسک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رواں طور پر کپنی کی فرہنگ کے ذریعے پیچھے ادائیگی کی شرائط پر کی جاتی ہے۔ مارکیٹ میں رسائی کے متعدد حاصل کرنے کے لیے، ادارے کے گاہکوں کے لیے کریڈٹ بڑھایا جاتا ہے۔ کاغذ کی فرہنگ بھی کریڈٹ پر ہے۔ گاہکوں کی طرف سے ادائیگیوں میں ڈیفالٹ کا خطرہ ہے اس طرح مالی نقصان ہو سکتا ہے۔

تاہم، کپنی نے کریڈٹ ریسک کو کنٹرول کرنے کے لیے موثر پالیسیوں اور قواعد کا نفاذ کیا ہے جس کا کپنی باقاعدگی سے تجزیہ کرتی ہے جیسا کہ مقررہ حساب کے کریڈٹ ریسک کی اہلیت اور اس کے مطابق کریڈٹ بڑھانے سے۔ کپنی کے پاس ایک باقاعدہ کریڈٹ پالیسی موجود ہے۔ جہاں ضروری اگلی تاریخوں کے چیک کریڈٹ صارفین سے لیے جاتے ہیں اور جہاں ضرورت ہو کپنی محتاط ایسی ہی پروگرام کرتی ہے۔



0.01%	2,355	ICP اور INIT
2.56%	1,193,646	تیرہ کمپنیاں
0.22%	102,933	جیکب ڈی ایف آئی، این بی ایف سی
9.27%	4,314,111	مفتاد بار اور میٹلس ٹریڈرز
		نامعلوم
29.56%	13,763,987	(A) ستانی
0.45%	211,478	(ب) غیر ملکی
11.04%	5,141,951	دیگر
100.00	46,557,888	کل ڈائن

4.5.2 جاری کنندہ کے ڈائریکٹرز، اسپانسرز اور اہم شیئر ہولڈرز (موجودہ اور پست رایت انشورڈوں):

%	پست رایت شیئر ہولڈنگ	ہولڈنگ %	موجودہ شیئر ہولڈنگ	جاری کنندہ کے ڈائریکٹرز، اسپانسرز اور اہم شیئر
				ہولڈرز کے حصص کی تعداد
%	موجودہ شیئر	%	موجودہ شیئر	ڈائریکٹرز
0.61%	409,104	0.61%	286,173	جناب آسٹم فاروق صاحب
0.15%	102,678	0.22%	102,678	جناب عارف ڈنو فاروق
0.06%	43,041	0.06%	30,108	جناب عامر فاروق
0.03%	21,713	0.03%	15,189	جناب داحضہ خالد
0.00%	4	0.00%	3	جناب حسن رضا الرحیم
				اہم شیئر ہولڈرز
41.49%	27,615,027	41.42%	19,286,163	فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ

ہولڈنگ کمپنی کی تفصیلات اور شیئر ہولڈنگ گاہک:

ناقابل اطلاق


4.2 پچھلے ایک سال کی معکم مالی بات کے ایاتی جھکیں

قابل اطلاق نہیں

4.3 پچھلے پانچ سالوں میں سرمایہ کے اضافی اھصلا

بولس ایو:

ھصلا	مالی سال 2023	مالی سال 2022	مالی سال 2021	مالی سال 2020	مالی سال 2019
فیصد	200%	15%	--	--	10%
ھصص کی اعداد	31,038,592	2,024,256	--	--	1,226,821
جمع شدہ سرمایہ (پاک روپے)	310,385,920	20,242,560	--	--	12,268,210
غیر سھسکر اب شدہ ھصص (پاک روپے)	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں	--	--	قابل اطلاق نہیں
بورڈ کی طرف سے بخش شدہ غیر سھسکر اب شدہ ھصص (پاک روپے)	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں	--	--	قابل اطلاق نہیں
انڈر رائٹر کے ذریعہ غیر سھسکر اب شدہ ھصص لیا گیا ہے	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں	--	--	قابل اطلاق نہیں
آمدنی کے استعمال کا بریک اپ	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں	--	--	قابل اطلاق نہیں

رائٹ کا ازام :

پچھلے پانچ سالوں میں رائٹ کا ازام نہیں کیا گیا۔

4.4 پچھلے چھ مہینوں کے دوران جاری کنندہ کے ھصص کی مارکیٹ کی اوسط قیمت

گزشتہ چھ مہینوں کے دوران برپور ھصص شوگر ملز لمیٹڈ کے شیئرز کی اوسط مارکیٹ قیمت (26 جولائی 2023 تا 26 جنوری 2024) 54.29 روپے فی ھصص ہے۔

4.5 شیئر کیپٹل اور ھصصہ معاملات (ھصص کا سرمایہ)
4.5.1 ازام کنندہ کی شیئر ھولڈنگ کی ترتیب:

فیصد	ھصص کی اعداد	شیئر ھولڈرز کے ذمے
		ذاتی شیئر، چھٹا ایڈویٹا، انڈیٹا، انڈیٹا کی خرید و بیعت اور نا مانع ہے
0.22%	102,678	جناب عارف ذوق فاروق
0.61%	286,173	جناب اسلم فاروق
0.06%	30,108	جناب عامر فاروق
0.03%	15,189	جناب واصف خالد
0.00%	3	جناب حسن رضا الرحیم
0.93%	434,151	ذیلی ٹول
		واہبہ ٹھیکیاں، ادارے اور ھصصہ فریق
41.42%	19,286,163	فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ
2.14%	996,186	چراٹ سہنت کھٹی لمیٹڈ
2.39%	1,110,927	گریو پور پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ
45.95%	21,393,276	ذیلی ٹول



3.3 کھیتی کے اسپانسرز کی پروڈکٹ

1. فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ

فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 1964 میں غلام فاروق گروپ کی سرپرست کھیتی کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر گروپ کے ایک سرمایہ کاری مددگار کے طور پر کام کرتا ہے۔

1.1 فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کی فہرست

سیریل نمبر	نام	حصص کی تعداد	حصہ
1	جناب عارف ڈوفاروق	80,690	20.00%
2	محترمہ یاسمین شاہ	40,345	10.00%
3	جناب اعظم فاروق	32,276	8.00%
4	جناب شہر پار فاروق	26,900	6.67%
5	محترمہ زینا حسن	26,900	6.67%
6	جناب عامر فاروق	26,895	6.67%
7	جناب عمر فاروق	26,895	6.67%
8	محترمہ مناش فاروق	26,895	6.67%
9	محترمہ گوید فاروق	26,895	6.67%
10	جناب طارق فاروق	24,207	6.00%
11	محترمہ علیہ فاروق	16,138	4.00%
12	محترمہ دینہ فاروق	16,138	4.00%
13	محترمہ آمنہ فاروق	16,138	4.00%
14	محترمہ سحر بانو نسوی	16,138	4.00%
	ٹوٹل	403,450	100.00%

1.2 فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کی فہرست

سیریل نمبر	نام	مہمہ
1	جناب عارف ڈوفاروق	چیف ایگزیکٹو آفسر
2	جناب اعظم فاروق	ڈائریکٹر
3	جناب شہر پار فاروق	ڈائریکٹر
4	جناب عامر فاروق	ڈائریکٹر

2. جناب عارف فاروق

چیئرمین

وہ ایک لائق سکس انارٹی-ایٹ-لاہ میں رہائشی ہیں۔ انہوں نے ریاستہائے متحدہ امریکہ سے لاہور بزنس ایڈمنسٹریشن دونوں میں ماسٹرز کی ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں اور حال ہی میں ہارورڈ بزنس اسکول میں اونر پریذیڈنٹ مینجمنٹ پروگرام مکمل کیا ہے۔ وہ فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ چرائٹ پیکیجنگ لمیٹڈ، چرائٹ سینٹ کھیتی لمیٹڈ اور یوٹی اینجی لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں۔ مذکورہ بالا کے علاوہ وہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز (LUMS) کے بورڈ آف گورنرز کے رکن بھی ہیں


3.2 دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرزپ

دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرزپ	عہدہ	ڈائریکٹر کا نام	سیریل نمبر
چراٹ سیٹ کھٹی لمیٹڈ چراٹ چکنگ لمیٹڈ فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ، یوٹی ازیٹی لمیٹڈ	چیئرمین	جناب عارف فاروق	1
چراٹ چکنگ لمیٹڈ گر یویزا انجینئرنگ سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ گر یویزا اینریجنڈیشننگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، یونیکول لمیٹڈ یوٹی ازیٹی لمیٹڈ	چیفس ایگزیکٹو	جناب اکلم فاروق	2
چراٹ چکنگ لمیٹڈ فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ گر یویزی این جی (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گر یویزی پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ	ٹان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	جناب عامر فاروق	3
-	ٹان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	محترمہ زمانہ فاروق	4
گر یویزا اینریجنڈیشننگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گر یویزی این جی (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گر یویزا انجینئرنگ سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	ایگزیکٹو ڈائریکٹر	جناب واصف خالد	5
ٹلس انٹورنس لمیٹڈ	آزاد ڈائریکٹر	جناب حسن رضا الرحیم	6
اسٹیٹ لائف کارپوریشن آف پاکستان الفا انشورنس کھٹی لمیٹڈ	آزاد ڈائریکٹر	جناب عبد اللکور شیخ	7



انہوں نے مالیاتی ماڈرنز کی ترقی اور نئے منصوبوں کے نفاذ میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ وہ تجارتی صنعت کے امور کو ترقی دینے کے لیے ریگولیشنز، پریکٹسٹھ اور صنعت کے سرکردہ شریا کارلز کے ساتھ سرگرم عمل رہے ہیں۔ غلام فاروق گروپ سے پہلے، مسز خالد شرفی وسطیٰ میں مختلف کمپنیوں سے وابستہ تھے اور پاکستان میں انہوں نے چار بڑی آڈٹ فرمز میں سے ایک کے ساتھ کام کیا۔ ان کے پاس مالیاتی تنظیم نو اور ڈائنگ، پراجیکٹ مینجمنٹ اور رائٹنگ آڈٹ میں اکیس سال سے زیادہ کا پھر پور تجربہ ہے۔

انہوں نے FPCCI کے جنرل ماڈی میٹر کے طور پر، بحیثیت سربراہ ایگٹ اور بجٹ کمیٹی PSMA - سندھ زون اور گورنمنٹی زرعی ترقی و اصلاحات وزارت صنعت و پیداوار اور کسان بورڈ کی جانب سے PSMA - سندھ زون میں خدمات انجام دیں۔ انہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے بنائی گئی شوگر مینجمنٹ کمیٹی کا رکن بھی نامزد کیا گیا ہے۔

جناب حسن رضا الرحیم

ڈائریکٹر

جناب رحیم ایک ماہر پیٹرن ہیں جن کے پاس بینکنگ اور مالیاتی خدمات کی صنعت میں 40 سال کا عملی اور بین الاقوامی تجربہ ہے۔ ان کے پاس پبلک ایکنڈ منسٹری بورڈ اور گورنمنٹ 10 سال کا تجربہ ہے اور وہ اس وقت ٹیس انٹرنیشنل لمیٹڈ اور میر پور خاص شوگر ملز لمیٹڈ کے بورڈز میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے سیان لمیٹڈ، ڈاؤ ڈیو گروپس کارپوریشن لمیٹڈ (ڈی ایچ کارپوریشن)، ڈاؤ ڈالز انسولین لمیٹڈ، اسکول لمیٹڈ، اور ہم نگر ورکس لمیٹڈ کے بورڈز میں بھی خدمات انجام دی ہیں۔ اس سے پہلے مسز رحیم ڈاؤ ڈیو گروپ کے چیئرمین آفس کے انچارج، اگزیکیوٹو ڈائریکٹر تھے جو کئی لمبے اور ان لمبے کمپنیوں پر مشتمل ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے کاروباری گروپوں میں سے ایک ہے۔ ڈی ایچ کارپوریشن ڈاؤ ڈیو گروپ کی سربراہی کا ایک اہم ادارہ ہے جن کا اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ میں ایک بڑا اقلیتی حصہ ہے۔

اپنے بینکنگ کے بڑے دور اور، مسز رحیم نے JPMorgan 15 سال گزارے جہاں وہ پاکستان اور بیرون ملک کی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ان کی کامیابیوں میں بحرین قطر اور سعودی عرب میں گلوبل کارپوریشن بینک کے قیام اور سربراہی میں معاہدے شامل ہیں، وہ پاکستان کے سینٹر کنٹری آفیسر تھے اور سنگاپور میں قائم خلافتی کارپوریشن فنانس ٹیم کا لازمی حصہ تھے۔ انہوں نے نیلی کام، مائیز انٹرنز، بینکنگ، آئل اینڈ گیس اور پیٹرولیم کیلکیشنوں میں 5.0 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کے بڑے اور پیچیدہ انضمام خریداری اور نیچکاری کے معاملات اور 2.0 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کے حکومتی قرضے اور بانڈز کے اجراء، آغاز، قیادت اور سرانجام دئے ہیں۔

اپنے کیریئر کے آغاز میں مسز رحیم بھارتی بینک آف انڈیا ANZ Grindlays Bank کے ساتھ بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ انہوں نے نیکی بین الاقوامی مقامات پر کام کیا ہے جن میں زیورٹ، سنگاپور، بحرین اور دہلی شامل ہیں۔ انہوں نے ایچ بی پی ڈگری USA کی یونیورسٹی آف ڈیلاویئر سے حاصل کی۔ کارپوریشن گورننس کی تربیت کرنے کے لیے ایک IFC سٹانڈیٹ ٹرینر بھی ہیں۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریشن گورننس کے صدر، ڈائریکٹر اور اس کی فیکلٹی میں بھی ہیں۔

جناب عبدالغفور شیخ

ڈائریکٹر

جناب عبدالغفور شیخ گزشتہ 27 سالوں سے سندھ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سول سروس کا حصہ رہے ہیں جن میں سوشل سیکورٹی اور کیوٹی ویلنٹیر میں 12 سال کا تجربہ ہے۔ کیوٹی ویلنٹیرنگ (B.E) میں پیپلز اور بزنس ایڈمنسٹریشن (MBA) میں ماسٹرز کرنے کے بعد، انہوں نے سول سروس میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے پاس انٹرنیشنل مینجمنٹ، میناس، آپریشنز، کوآرڈینیشن، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، انس و ایمان برقرار رکھنے، ریونیو اکٹھا کرنے، سماجی اور کیوٹی ویلنٹیر سروسز، ریونیو اور سماجی آپریشنز، گورننس، تعلیم، پرائمری ہیلتھ کیئر سے متعلق مختلف انتظامی صلاحیتوں کا پختہ تجربہ ہے۔ انہوں نے تربیت اور صلاحیت کی تعمیر، ادارہ جاتی ترقی اور پبلک ایڈمنسٹریشن اور سرکاری/سماجی شعبے کے اداروں کی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے میں خاطر خواہ تعاون کرنے میں موثریت کا مظاہرہ کیا ہے۔

انہوں نے درمیانی اور سنٹر سطح کے انتظامی عہدوں پر مختلف ٹیموں کی سربراہی کی اور اس وقت پالیسی سازی کے کردار سے وابستہ ہیں۔ ان کے پاس حکومت سندھ (2002-2022)، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آئی) (2006-2008)، نییشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ (2006-08)، پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر ایشیو (2008-13)، ایف بی آئی (2016-2013)، وزارت سندھ پر پاکستان اور ایچ آر ڈی (2016-2020)، ایف بی آئی (2020-2022)، سندھ ریونیو بورڈ (2022) میں اعلیٰ عہدوں پر گہری عملی معلومات اور کام کرنے کا تجربہ ہے۔ انہیں بیرون ملک پاکستانی مشن میں کیوٹی ویلنٹیرنگ کے طور پر چار سال سے زائد عرصے تک خدمات انجام دینے کا موقع ملا جس نے انہیں انسانی وسائل اور بیرون ملک ٹیم پاکستانیوں سے متعلق مسائل/پالیسیوں کے حوالے سے پاکستان کی برآمدی صلاحیت کے بارے میں مزید آگاہ کیا۔

وہ اس وقت اسٹینڈ لائف کارپوریشن آف پاکستان میں ایگزیکوٹو ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں جو ریشل اور پالیسی ہولڈرز اور ڈویژن کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ وہ بورڈ آف



جناب عارف فاروق

چئیرمین

جناب عارف فاروق ایک اہل حق سؤکس انارٹنی-ایٹ لا ہیں، انہوں نے ریاستہائے متحدہ امریکہ سے لا اور برٹس ایڈمنسٹریٹیشن دونوں میں ماسٹری ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں اور حال ہی میں ہارورڈ برٹس اسکول میں اونر پیڈیڈنٹ مینجمنٹ پروگرام مکمل کیا ہے۔ وہ فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ چرائٹ پیکیجنگ لمیٹڈ، چرائٹ سینٹ کینڈی لمیٹڈ اور یونی ارنٹی لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں۔ مذکورہ بالا کے علاوہ، وہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز (LUMS) کے بورڈ آف گورنرز کے رکن بھی ہیں۔

جناب اہلم فاروق

چیف ایگزیکٹو

جناب اہلم فاروق مارکیٹنگ میں مینجریٹنگ کے تجربے سے ہیں۔ وہ میر پورخاص شوگر ملز لمیٹڈ، یونیول لمیٹڈ اور یونی ارنٹی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ چرائٹ پیکیجنگ لمیٹڈ، گریوز ایگزیکٹو لمیٹڈ، گریوز ایگزیکٹو لمیٹڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور گریوز ایگزیکٹو لمیٹڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں۔ ماضی میں، وہ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن-سینٹرل کے چئیرمین اور سینٹر وائس چئیرمین کے طور پر خدمات سرانجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن سندھ زون کے چئیرمین اور سوئی سدرن گیس کینڈی لمیٹڈ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان اور پاکستان انڈسٹریل ڈولپمنٹ کارپوریشن کے ڈائریکٹرز کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں۔

جناب عامر فاروق

ڈائریکٹر

مسٹر عامر فاروق جوڈریک یونیورسٹی، ڈیٹس مونسز، آئیووا، USA سے برٹس ایڈمنسٹریٹیشن میں پیچھ آف سائنس (BS) مینجمنٹ مارکیٹنگ میں اسپیشلائزیشن کرچکے ہیں۔ وہ چرائٹ پیکیجنگ لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گریوز ایگزیکٹو لمیٹڈ اور پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گریوز ایگزیکٹو لمیٹڈ اور پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر اور چرائٹ سینٹ کینڈی لمیٹڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مارکیٹنگ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ غلام اسحاق خان (GIK) انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اور لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز (LUMS) اور سینٹر آف انٹرنیشنل پرائیویٹ انڈسٹریز (CIPE) کے بورڈ آف گورنرز کے رکن کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ پیٹا ور میں برازیل کے اعزازی توصل بھی ہیں۔

مسٹر فرزانہ فاروق

ڈائریکٹر

مسٹر فرزانہ فاروق نے جی ایس کالج آف آرٹس اینڈ ڈیزائن سے گراڈ کی اور کیونیکیشن میں بی اے (آنرز) کے ساتھ گریجویٹیشن کیا۔ بعد میں انھوں نے تعلیمات اور ترقی کے لیے اپنی گن کی وجہ سے ہائیڈروجن آفٹیس ٹریڈ کے طور پر سہ ماہی حاصل کی مسٹر فرزانہ نے ایک انڈر سائیکلنگ فٹنس شوڈیو کی بنیاد رکھی اور 2015 میں ہائیڈروجن ٹریڈ کی مشن کو بنیاد رکھی۔ وہ سٹوڈیو X کی سوشل میڈیا اور مارکیٹنگ مینجریٹنگ ہیں۔ انھوں نے اپنی مہارت سے اپنے براڈر کو پروان چڑھایا اور پاکستان بھر میں ایک جان بچانام نام بن گئیں۔

جناب واصف خالد

ڈائریکٹر

جناب واصف خالد انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان (ICAP) کے فیلو اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پبلک فنانس کا مینجمنٹ (PIFPA) کے فیلو ہیں۔ انہوں نے ہمدرد یونیورسٹی، کراچی سے برٹس ایڈمنسٹریٹیشن (مارکیٹنگ اور پرائیویٹ مینجمنٹ) میں ماسٹری بھی کیا ہے۔

وہ میر پورخاص شوگر ملز لمیٹڈ اور زین سافٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ڈائریکٹر اور چیف فنانس آفیسر ہیں۔ مسٹر خالد میر پورخاص شوگر ملز لمیٹڈ، گریوز ایگزیکٹو لمیٹڈ، گریوز ایگزیکٹو لمیٹڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور گریوز ایگزیکٹو لمیٹڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اور یونی کول لمیٹڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فنانس کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔



2- رکنیت کی رقم ادا ہنگی کا طریقہ کار

- الف- جیسا کہ اوپر بتایا گیا گیا ہے کہ ادا ہنگی نقد یا کراس شدہ چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ / پی آر ڈر کے ذریعے مذکورہ بینکوں کی کسی بھی نمائزہ برانچ میں " **Mirpurkhas Sugar Mills Limited Right Shares Subscription** " کے کریڈٹ کیلئے سہسکرپشن کی درخواست کے ساتھ باضابطہ طور پر پھری گئی اور سہسکرپشن کے ذریعہ دیکھنا شدہ 07 مئی 2024ء سے پہلے کی جانی چاہیے۔
- ب- رائٹ سہسکرپشن کی درخواست <https://gfg.com.pk/msm/right-share-offer/> سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔
- ج- غیر تقسیم پاکستانی / غیر ملکی شہر ہولڈر کی صورت میں، پاکستانی روپے میں مساوی رقم کا ڈیمانڈ ڈرافٹ / رائٹ سہسکرپشن کیلئے بینکیریٹی، (میر پور خاص شوگر ملز لمیٹڈ رائٹ حصص / اجراء) کے ساتھ جاری کنندہ کے رجسٹرڈ دفتر سے پہلے NICOP / پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ سہسکرپشن کی درخواست (دو دنوں کا پیمانہ) کے ساتھ صحیح طریقے سے دائر اور دیکھنا شدہ ادا ہنگی کی آخری تاریخ سے پہلے بھیجا جانا چاہیے۔
- د- تمام چیک اور ڈرافٹس اسی شہر میں واقع بینک پر تار کیے جائیں جہاں سہسکرپشن کی صحیح درخواست جمع کی گئی ہو۔ چیک رقم کی وصولی سے مشروط ہے۔
- ذ- بینک ڈاک کے ذریعے ڈیلیوری گئی رائٹ سہسکرپشن کی درخواست کو قبول نہیں کرے گا جو 7 مئی 2024ء کو کاروبار کے بند ہونے کے بعد پہنچے گی، ہوائے اس کے یہ ثبوت دستیاب نہ ہو کہ یہ ادا ہنگی کی آخری تاریخ سے پہلے پوسٹ کی گئی ہے۔
- ر- 7 مئی 2024ء کو یا اس سے پہلے اجراء کنندہ کے بینکر کو اوپر بتائی گئی رقم کی ادا ہنگی کو رائٹ سہسکرپشن کی قبولیت کے طور پر سمجھا جائے گا۔
- ز- کہنی کے بینکر کی طرف سے ادا ہنگی موصول ہونے کے بعد ادا ہنگی کی آخری تاریخ سے 14 کاروباری دنوں کے اندر رائٹ سہسکرپشن کے متعلقہ CDS اکاؤنٹس میں جمع کردی جائیں گی۔ ادا شدہ حق رکنیت کی درخواست کی تجارت یا منتقلی نہیں کی جائے گی۔
- س- IAS اکاؤنٹ ہولڈرز سب اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ان الاٹن ادا ہنگی کا اختیار: CDC نے رائٹ سہسکرپشن کے لیے 1 link کے ذریعے آن الاٹن ادا ہنگی کی سہولت متعارف کرائی ہے۔ سرمایہ کار کا راکازنٹ ہولڈرز سب سہسکرپشن کی درخواست کے اوپری دائیں طرف پرنٹ کردہ Bill 1 ادا ہنگی ID کے لیے سہسکرپشن کر دیا ہے متعلقہ رائٹس کے لیے آن الاٹن ادا ہنگی کر سکتے ہیں (CDS کے ذریعے تار کردہ) 1 Links ممبر بینکوں کے تمام دستیاب آن الاٹن بینکنگ سٹیمپڈ (جیسے انٹرنیٹ بینکنگ، خود کارڈ لٹرنیشن (اے ٹی ایم) اور مو بائل بینکنگ)۔

3 کہنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اسپانسرز کے پروفائل

3.1 کہنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پروفائل

بورڈ آف ڈائریکٹرز	عہدہ	تقریری کی آخری تاریخ
جناب عارف فاروق	چیئرمین	21-01-2023
جناب اعلم فاروق	چیف ایگزیکٹو آفیسر	21-01-2023
جناب عامر فاروق	ٹان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	21-01-2023
محترمہ فرات فاروق	ٹان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	21-01-2023
جناب واصف خالد	ایگزیکٹو ڈائریکٹر	21-01-2023
جناب حسن رضا الرحیم	آزاد ڈائریکٹر	21-01-2023
جناب عبدالغفور شیخ	آزاد ڈائریکٹر	29-11-2023


1.6 اہم شیئرز ہولڈرز/ڈائریکٹرز کی جانب سے کئے گئے وعدے

نام	حیثیت (شیئرز ہولڈرز/ڈائریکٹر)	موجودہ حصص کی تعداد	حصص کی تعداد جن کو سہکارپ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا؛	جس رقم کو ادا کرنے کا وعدہ کیا گیا پاکستانی روپے	شیئرز ہولڈنگ (فیصد) ازراء سے پہلے	شیئرز ہولڈنگ (فیصد) ازراء کے بعد
فاروق (پرائیویٹ) لمیٹڈ*	اہم شیئرز ہولڈر	19,286,163	8,328,864	208,221,600	41.42%	41.49%
جناب آلم فاروق	ڈائریکٹر	286,173	122,931	3,073,275	0.61%	0.61%
جناب عامر فاروق	ڈائریکٹر	30,108	12,933	323,325	0.06%	0.06%
جناب واصف خالد	ڈائریکٹر	15,189	6,524	163,100	0.03%	0.03%
جناب حسن رضا الرحیم	ڈائریکٹر	3	1	25	0.00%	0.00%

* اس رقم میں موجود ڈائریکٹر جناب عارف ذوق فاروق کے 44,107 شیئرز کے رائف شیئرز سہکارپ میں شامل ہیں جنہیں فاروقی (پرائیویٹ) لمیٹڈ نے سہکارپ کرنے کا انتظام کیا ہے۔

1.7 جزوی حصص

تمام جزوی استحقاق، اگر کوئی ہیں، کو یکجا کر دیا جائے گا اور اس کے سلسلے میں غیر ادا شدہ رائٹ لیٹرز پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ ("PSX") پر فروخت کیے جائیں گے، جس سے حاصل ہونے والی خالص آمدنی، ایک بار فروخت ہونے کے بعد ریگولیشنز کے مطابق ان کے متعلقہ حقداروں کے تناسب سے حقدار شیئرز ہولڈرز میں تقسیم ادا کی جائے گی۔

1.8 اہم تاریخیں

میرپور خاص شوگر ملز لمیٹڈ لیٹر آف رائٹ کے اجراء کے لیے عارضی شیڈول کھاتوں کی بندش: 26 مارچ 2024 سے 01 اپریل 2024 تک (بشمول دو دن)			
سیریل نمبر	طریقہ کار	دن	تاریخ
1	بک انٹری فارم میں ڈی ایس میں غیر ادا شدہ رائٹ حصص کے کریڈٹ کی تاریخ	منگل	02 اپریل 2024
2	فونڈیکل شیئرز ہولڈرز کو لیٹر آف رائٹ LOR کی ترسیل	جمعرات	04 اپریل 2024
3	اسٹاک ایکسچینج کو فونڈیکل لیٹر آف رائٹس بھیجنے کی اطلاع	جمعرات	04 اپریل 2024
4	سکیورٹیز ایکسچینج پر غیر ادا شدہ رائٹس کی تجارت کا آغاز	جمعرات	08 اپریل 2024
5	ڈی ایس میں درخواستوں کو تقسیم کرنے اور جمع کرنے کی آخری تاریخ	جمعرات	18 اپریل 2024
6	لیٹر آف رائٹ کی تجارت کی آخری تاریخ	جمعرات	29 اپریل 2024
7	ادا ہنگی کی منظوری کی آخری تاریخ	منگل	07 مئی 2024
8	حصص کی الاٹمنٹ اور ڈی ایس میں حصص کا کریڈٹ	جمعرات	27 مئی 2024
9	فونڈیکل شیئرز سٹیکفیلڈس کی ترسیل کی تاریخ	جمعہ	07 جون 2024

یہاں فراہم کردہ تاریخیں سہکارپ کیے جاسکتے ہیں جو کہ 10 ڈائریکٹرز کے درمیان 10 دنوں کے اندر کسی بھی تاریخ پر جاری کیا جاسکتا ہے۔


1.3 رائج اجراء سے پیدا ہونے والے مالی اثرات

تفصیل	پیمانے کی اکائی	اجراء سے قبل	اجراء کے بعد	اضافہ/ کمی (%) میں
As on September 30, 2023				
مجاز سرمایہ	پاکستانی روپے ملین میں	1,500	1,500	--
ادا شدہ سرمایہ	پاکستانی روپے ملین میں	465.57	665.57	42.957%
مکمل اثاثہ/ بریک اپ ڈیویڈنڈ شیئر	پاکستانی روپے	87.89	68.99	(21.5%)
گیئرنگ ریشوہ	%	39.24%	36.53%	(6.9%)
پیداواری صلاحیت	گنا کرٹنگ کی صلاحیت فی دن (ٹن)	12,500	12,500	
	کانڈیناٹے کی کھپائش فی دن (ٹن)	250	250	نا قابل اطلاق
مارکیٹ شیئر	حالیہ مارکیٹ کھپلاؤں پر پیش کی بنیاد پر	3%	3%	نا قابل اطلاق

نوٹ: یہ اعداد و شمار 30 ستمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کھپنے کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات سے لیے گئے ہیں

1.4 اجراء کے کل اخراجات

400,000	PSX کی فیس (ادا شدہ سرمائے میں اضافہ کا 0.2 فیصد)
--	بینکرز کمیشن
1.00%	انڈر رائٹنگ کمیشن
1.50%	انڈر رائٹنگ ایپ کمیشن
-/100,000 روپے	اجراء کے لیے بینکرز - اضافی اخراجات
-/500,000 روپے	سی ڈی سی - نئے اجراء کی فیس
-/600,000 روپے	سی ڈی سی - اہل سکورٹی کے لیے سالانہ فیس (سٹیٹ فیس)
-/40,000 روپے	SECP سپروائزر فیس (PSX کو آڈٹ کی فیس کا 10%)
-/500,000 روپے	آڈیٹر عینگیٹ کے لیے آڈیٹ فیس
-/5,000,000 روپے	دیگر اخراجات پر عینگیٹ کے اخراجات، دکلا ماڈر مشاوری فیس وغیرہ

1.5 انڈر رائٹرز کی تفصیلات:

انڈر رائٹر کا نام	رقم پاکستانی روپے	اجراء کنندہ کی ایسوسی ایٹڈ کمپنی/ ایسوسی ایٹڈ انڈر رائٹنگ
عارف حبیب لینڈ	208,218,675	کوئی نہیں
اسامیل اقبال سکیورٹیز (پرائیویٹ) لینڈ	80,000,000	کوئی نہیں



1.2 اجراء کا اصل مقصد اور فنڈنگ کے انتظامات:

میرپورخاص شوگر مل لمیٹڈ اپنے کاروبار کی برہتی ورنلگ کھپول کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈ زاکٹھا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس رقم کو کمپنی کی یومیہ ورنلگ کھپول کی ضروریات کے لیے فنڈنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس طرح لیکوڈیٹی کی سطح کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارا کاروبار جاری رکھنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ MSML مالیاتی تناسب کو بہتر بنانے اور منافع میں اضافہ کرنے کے قابل بنانے کا جو اجماعی طور پر شیئر ہولڈرز کے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔

ذیل میں رائٹ اجراء کی آمدنی کے استعمال کی تیسیم کاری (بریک اپ) دی گئی ہے۔

اجراء کا مقصد	حاصل ہونے والی رقم (پاکستانی روپے)	فیصد
کام چلانے کیلئے سرمایہ	500,000,000	100%

MSML کی متوقع ورنلگ کھپول کی ضروریات کو رائٹ ایٹھ سے حاصل ہونے والی آمدنی سے پورا کیا جائے گا جو کہ ایک پائیدار کاروبار کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔

دوسرے ممالک جن میں ورنلگ کھپول کے طور پر تیسیم کیا گیا ہے۔

ورنلگ کھپول کے مقاصد کے لیے بڑی وسیع سرگرمیوں میں درج ذیل شامل ہوں گے (لیکن ان تک محدود نہیں ہیں):

- خام مال کی خریداری کے لیے ادائیگی
- ٹیکسیز، اسٹورز، ایجنیز اور مختلف دیگر بحال کے اخراجات کی ادائیگی
- آپریٹنگ اخراجات کی ادائیگی MSML کی ورنلگ کھپول کی ضروریات کے مطابق دیگر اخراجات

متعلقہ ضروریاتوں کے ساتھ ساتھ ورنلگ کھپول کی ضرورت کے نتیجے کی بنیاد

ورنلگ کھپول کی ضروریات کا نتیجہ ملحد شواہد متوقع اعداد و شمار کے اشتراک پر مبنی ہے چونکہ معاشی ست روی کے پس منظر میں ان پٹ الاگت میں نمایاں اضافہ، بلند شرح سود، برہتی ورنلگ شرح مبادلے قابل حصول سائیکل، نام سبٹریل اور اسٹورز / ایجنیز کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے ورنلگ کھپول کی ضروریات میں اضافہ ہوا ہے تاکہ MSML کے کاروباری آپریشنز میں مدد کی جاسکے۔

اضافی ورنلگ کھپول بڑھانے کی وجوہات، متعلقہ خاتون اور اعداد و شمار کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا

حصص یافتگان کے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے کمپنی کے کاروبار کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کے لیے ورنلگ کھپول کو بڑھایا جا رہا ہے۔ موجودہ معاشی صورتحال اور کاروباری سرگرمیوں میں ست روی کی وجہ سے شمول ان پٹ الاگت میں نمایاں اضافہ، مالی سال 2023 میں مجموعی آپریٹنگ سائیکل متاثر ہوا ہے۔ اس کی قبیل مدنی ضروریات کے لیے سود کی شرح کے ناموافق ماحول کے پیش نظر کمپنی کی ورنلگ کھپول کی ضروریات کو زیادہ تر میٹکون / مالیاتی اداروں کے قرضوں کے ذریعے فنڈ ایک قابل عمل آپشن نہیں ہے۔ لہذا مندرجہ بالا کی روشنی میں، ورنلگ کھپول کے مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے والے ایکویٹی فنڈ کو زیادہ قابل عمل اور ایک موزوں نقطہ نظر ہے، جس سے مختصر مدت کے قرضوں پر انحصار کم ہوگا۔

رائٹ اجراء MSML کو اپنی لیکوڈیٹی کو بہتر بنانے اور مالیاتی الاگت کو کم کرنے میں مدد کرے گا جس کے نتیجے میں شیئر ہولڈرز کو زیادہ سے زیادہ منافع ملے گا۔ مزید یہ کہ کمپنی کے سرمائے کی تشکیل میں بہتری آئے گی۔

پچھلے تین سالوں کے کیش کوریژن سائیکل کی دونوں میں تعداد

2021	2022	2023	
97%	110%	135%	کیش کوریژن سائیکل (دون)

1 2023 کے لیے کیش کوریژن سائیکل کا حساب لگانے کے لیے MSML میں مندرجہ ذیل خاتون (135=10-37+108) * 100 سے کیا گیا ہے۔
2 2022 کے لیے کیش کوریژن سائیکل کا حساب لگانے کے لیے MSML میں مندرجہ ذیل خاتون (110=9-20+99) * 100 سے کیا گیا ہے۔
3 2021 کے لیے کیش کوریژن سائیکل کا حساب لگانے کے لیے MSML میں مندرجہ ذیل خاتون (97=8-22+83) * 100 سے کیا گیا ہے۔


1 رائج اجراء کی نمایاں خصوصیات:
1.1 رائج اجراء کی مختصر اٹلا

الف	اجراء کی تفصیل	موجودہ شیئر ہولڈرز کو رائج حصص کا اجراء
ب	مجوزہ اجراء کا سائز (حجم)	کتنی مجموعی طور پر Rs.500,000,000 (پانچ سو ملین روپے) کے (20 ملین) عام شیئرز -25/- روپے کی فی حصص کی قیمت پر جاری کرے گی۔
ج	شیئر کی فیس و پلیو	10/- روپے فی حصص
د	رائج اجراء کی قیمت کے تعین کی بنیاد۔	رائج اجراء پر بہیم پر کیا جا رہا ہے۔ کتنی کی موجودہ مارکیٹ پر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، مساوی قیمت پر وصول کردہ پر بہیم جائز ہے اور مارکیٹ کے مزید طریقہ کار کے مطابق ہے۔
ذ	موجودہ حصص پر کسی بھی قابل اطلاق شرط کے ساتھ نئے اجراء کا تناسب	تقریباً 42.957% رائج حصص ہر 100 عام حصص پر رکھے گئے ہیں یعنی کتنی کے موجودہ اداشدہ سرمائے کا تقریباً 42.957%
ر	بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کی تاریخ جس میں رائج اجراء کو منظور کیا گیا تھا	26 جنوری 2024
ز	بورڈ میٹنگ میں شرکت کرنے والے ڈائریکٹرز کے اسامہ نامی	1. جناب عارف فاروق، چیئر مین 2. جناب اسلم فاروق، چیف ایگزیکٹو آفیسر 3. جناب عامر فاروق، نائ ایگزیکٹو ڈائریکٹر 4. محترمہ مرزا فاطمہ فاروق، نائ ایگزیکٹو ڈائریکٹر 5. جناب واصف خالد، ایگزیکٹو ڈائریکٹر 6. جناب حسن رضا الرحیم، آزاد ڈائریکٹر 7. جناب عبدالغفور شیخ، آزاد ڈائریکٹر
س	رائج اجراء کے استعمال کا مختصر مقصد	رائج اجراء سے حاصل ہونے والی آمدنی کو MSML کی ورکنگ کپٹل کی ضروریات کی فنڈنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ ہموار آپریشن کو یقینی بنایا جاسکے جو کتنی کی مسلسل ترقی کے لیے بنیادی ہے، اس طرح اس کے منافع میں اضافہ ہوتا ہے اور نتیجتاً شیئر ہولڈرز کو زیادہ سے زیادہ منافع ملے۔
ش	رائج اجراء کا مقصد	رائج اجراء کا مقصد MSML کو اپنی بڑھتی ہوئی ورکنگ کپٹل کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل بنانے کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا ہے۔ اس رقم کو کتنی کی یومیہ ورکنگ کپٹل کی ضروریات کے لیے فنڈنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس طرح لیکویڈیٹی کی سطح کو برقرار رکھتے ہوئے ہموار کاروباری کارروائیوں کو یقینی بنایا جائے گا۔ MSML مالیاتی تناسب بہتر بنانے اور منافع میں اضافہ کرنے کے قابل بنانے کا جو اجماعی طور پر حصص یافتگان کے زیادہ سے زیادہ منافع میں حصہ ڈالے گا۔
ص	سسکریپشن کی کم از کم سطح	قابل اطلاق نہیں۔



فہرست کے مضامین

1	رائٹ اجراء کی فراہم کی خصوصیات
1.1	رائٹ اجراء کی مختصر شرائط
1.2	اجراء کا حاصل مقصد اور فنڈنگ کا بندوبست
1.3	رائٹ کے اجراء سے پیدا ہونے والے مالی اثرات
1.4	رائٹ کے اجراء کے مکمل اخراجات
1.5	انڈر رائٹرز کی تفصیلات
1.6	اہم شیئر ہولڈرز ڈائریکٹرز کی جانب سے وعدے
1.7	جزوی حصص
1.8	اہم تاریخیں
2	رکنیت کی رقم اور منگلی کا طریقہ کار
3	پورڈ آف ڈائریکٹرز اور اسپانسرز کی پروفائل
3.1	کمپنی کے پورڈ آف ڈائریکٹرز کی پروفائل
3.2	دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرز کی ڈائریکٹرشپ
3.3	اسپانسرز کی پروفائل
4	اجراء کنندہ کی مالی تفصیلات
4.1	گزشتہ تین سالوں کے لیے اجراء کنندہ کی مالی تفصیلات
4.2	مستحکم مالی بیانات کے ایک سال سے پہلے کی مالی تفصیلات
4.3	بچھلے پانچ سالوں میں کمپنی کے اجراء کی تفصیلات
4.4	بچھلے چھ مہینوں کے دوران شیئر کی اوسط مارکیٹ قیمت
4.5	حصص کا سرمائے اور متعلقہ معاملات
5	خطرے کے عوامل
5.1	رائٹ اجراء سے وابستہ خطرہ
5.2	اجراء کنندہ سے وابستہ خطرہ
6	قانونی مقدمات/ معاملات
6.1	کمپنی کے ذریعہ اتواء قانونی مقدمات
6.2	کاروبار کے عام معاملات کے علاوہ کوئی بھی ذریعہ اتواء قانونی مقدمہ جو اجراء کنندہ، اس کے اسپانسرز، اہم شیئر ہولڈرز، ڈائریکٹرز اور اس سے وابستہ کمپنیوں کو ملوث کرے جس پر اجراء کنندہ کا کنٹرول ہو اور، جو اجراء کنندہ پر مادی اثر ڈال سکے۔
6.3	ضوابط کی عدم تعمیل کی وجہ سے گزشتہ تین سالوں کے دوران اجراء کنندہ یا اس سے وابستہ لیڈ کمپنیوں کے خلاف سیکیورٹیز ایکٹیوٹی کی طرف سے کی گئی کارروائی۔
7	پیش کش کی دستاویز پر دیکھا کنندہ



کھینکی اصطلاحات کے تفصیلات


ایکٹ	سکیچو ریٹائر ایکٹ، 2015
سی ڈی سی	سینٹرل ڈیپازٹری کمیٹی آف پاکستان لمیٹڈ
سی ڈی ایس	سینٹرل ڈیپازٹری سٹم
CNY	چائینیز یوآن
کمپنیز ایکٹ	کمپنیز ایکٹ، 2017
IAS	انٹرنیشنل اکاؤنٹس سروسز
LoR	لیٹر آف رائٹ
Mn	ملین
این آئی سی او پی	میرن ملک تھیر پاکستانیوں کے لیے قومی شناختی کارڈ
OCC	پانے کاٹن Corrugated کارٹن
PKR or Rs	پاکستانی روپیہ
PSX / ایکسٹریچ	پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ
USD	امریکی ڈالر

توضیحات

درخواست کی رقم	موجودہ شیئرز ہولڈرز کی قابل ادائیگی کی کل رقم جو شخص کیے جانے والے انحصار کی قیمت کے برابر ہے
اجراء کے لئے بینک	کوئی بھی بینک جس میں اجراء کنندہ کا اجراء کی رقم رکھنے کے لیے اکاؤنٹ کھولا اور برقرار رکھا جائے۔
کھاتے بند ہونے کی تاریخ	میران بینک لمیٹڈ اور صیغہ میٹرو پولیٹن بینک لمیٹڈ کو، اس رائٹ اجراء میں شیئرز کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔
کھینکی/ جاری کنندہ	کھاتوں کی بندش 26 مارچ 2024 سے شروع ہوگی 01 اپریل 2024 تک (بشمول دو دن ایام)۔
کمیشن	میر پور خاص شکر ملز لمیٹڈ ("کھینکی" یا "MSML" یا "اجراء کنندہ")
اجراء	سکیچو ریٹائر ایڈوانسمنٹ کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی)
اجراء کی قیمت	20,000,000 رائٹ شیئرز کا اجراء جو کھینکی کے کل ادا شدہ سرمائے کے %42.9577 کی نمائندگی کرتا ہے۔
عام حصص	وہ قیمت جس پر کھینکی کے رائٹ شیئرز کو موجودہ شیئرز ہولڈرز کو جاری کیے جا رہے ہیں۔ جو کہ 25/- روپے فی حصص ہے۔
ضوابط	میر پور خاص شکر ملز لمیٹڈ کے عام حصص جس میں ہر ایک کی قیمت پاکستانی روپے 10/- ہے۔
رائٹ اجراء	کمپنیز (ہرائے اشافی اجراء حصص) ضوابط، 2020
اسپانسر	کمپنیز کی طرف سے اسے اراکین کو پیش کردہ حصص، اسکے پاس پہلے سے موجود حصص کی متعلقہ اقسام اور درجہ بندیوں کے تناسب میں ہیں۔
	وہ شخص جس نے اجراء کرنے والی کھینکی کے ابتدائی سرمایہ میں حصہ ڈالا ہو یا اسے اجراء کرنے والی کھینکی کے پورے میں بلا واسطہ یا بلا واسطہ ڈائریکٹرز کی اکثریت کی تقرری کا حق حاصل ہو۔
	وہ شخص جو اوپر بیان کردہ شخص کی جگہ لیا جائے؛ اور
	وہ شخص یا افراد گروپ جس کے پاس بلا واسطہ یا بلا واسطہ اجراء کرنے والی کھینکی کا کنٹرول ہے۔


اطلان برأت

- I کینیڈا ایکٹ، 2017 (مختص کامز بیدا اجراء) ریگولیشنز، 2020 کے مطابق، اس دستاویز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج اور سکیورٹیز ریگولیشنز ایکٹ، 1997 اور سکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔
- II سکیورٹیز ایکسچینج اور ایس ای سی بی برأت کا اظہار کرتے ہیں:
 الف۔ اس دستاویز سے پیدا ہونے والے یا اس پر انحصار کرتے ہوئے کسی کو بھی، کسی بھی وجہ سے بشمول اس کی تمام غلطیوں، مکمل ہونے کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں اور/یا اقدامات کی وجہ سے کسی بھی نقصان کی کوئی بھی ذمہ داری۔
 ب۔ کمپنی اور اس کی کسی بھی اسٹیٹم پر وہجیکٹ کی مالیاتی درستگی کی کوئی ذمہ داری یہاں بیان کی گئی ہے یا اس پیشکش کی دستاویز میں کتنی کی طرف سے ان کے حوالے سے دیے گئے بیانات یا رائے کی درستگی کے لیے کوئی ذمہ داری۔
 ج۔ رائٹ اجراء کے معیار کے حوالے سے کوئی بھی ذمہ داری۔
- III اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ پیشکش کی اس دستاویز میں معلومات کو سکیورٹیز ایکسچینج اور ایس ای سی بی کی طرف سے دیئے گئے کسی مخصوص معاملے میں مشورے کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہئے اور اسے مخصوص مشورے کے متبادل کے طور پر نہیں سمجھنا چاہئے۔




UNDERTAKING BY THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF FINANCIAL OFFICER

 Date: 28-03-2024

WE, ASLAM FARUQUE, THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND WASIF KHALID, THE CHIEF FINANCIAL OFFICER OF MIRPURKHAS SUGAR MILLS LIMITED CERTIFY THAT:

1. THIS OFFER DOCUMENT CONTAINS ALL INFORMATION WITH REGARD TO THE ISSUER AND THE ISSUE, WHICH IS MATERIAL IN THE CONTEXT OF THE ISSUE AND NOTHING HAS BEEN CONCEALED IN THIS RESPECT;
2. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS OFFER DOCUMENT IS TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND BELIEF;
3. THE OPINIONS AND INTENTIONS EXPRESSED THEREIN ARE HONESTLY HELD;
4. THERE ARE NO OTHER FACTS, THE OMISSION OF WHICH MAKES THIS OFFER DOCUMENT AS A WHOLE OR ANY PART THEREOF MISLEADING; AND
5. ALL REQUIREMENTS OF THE COMPANIES ACT, 2017, THE COMPANIES (FURTHER ISSUE OF SHARES) REGULATIONS, 2020, THE CENTRAL DEPOSITORY COMPANY AND THAT OF PSX PERTAINING TO THE RIGHT ISSUE HAVE BEEN FULFILLED.

FOR AND BEHALF OF MIRPURKHAS SUGAR MILLS LIMITED

ASLAM FARUQUE
 CHIEF EXECUTIVE OFFICER

WASIF KHALID
 CHIEF FINANCIAL OFFICER


Mirpurkhas
 Sugar Mills Limited

پیشکش کی دستاویز
متعلقہ شخص سے رابطے کی تفصیلات

جاری کنندہ کا عجاز افسر	شخص کا نام	عہدہ	رابطہ نمبر	آفس ایڈریس	ای میل آئی ڈی
	جناب دامت خالد	ڈائریکٹر اور چیف ٹیکسٹائل مینجر	+92(21)111-354-111	دوسری منزل، ہاؤس نمبر 7، ڈی. ایس، یہ منصف روڈ، کراچی۔ 75530	rismm@gfg.com.pk

انہما کے لئے اڈریسز

عارف حبیب بیگ	جناب ٹرمو مدنی	چیف ٹیکسٹائل مینجر	+92(21)111-245-111	F/2، عارف حبیب سٹریٹ، M.T.، 23، ٹان روڈ، کراچی	taha.siddiqui@arifhabibltd.com
امامیل، قاتل کورنگ (پرائیویٹ) لیٹر	جناب حافظ مصطفیٰ	چیف ایگزیکٹو مینجر	+92(21)111-111-447	بلاک # 94 - C، KDA اکٹمبر 1، مین کار سار روڈ، کراچی	ahfaz.mustafa@ismailqbal.com

انہما کے لئے فون کے نام

میزان بینک لمیٹڈ	جناب مرزا ایوب بیگ	سینئر نائب صدر۔ ڈیپوٹنٹ مینجر کمپنیل مارکیٹس	+92(21)36406118	میزان ہاؤس، 25-C، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ، کراچی	ayub.baig@meezanbank.com
حبیب میٹروپولیٹن بینک لمیٹڈ	جناب میدمراج حسن	نیم ایگزیکٹو (جنوبی) ٹرانزیکشنز بینکنگ یونٹ	+92(21)32644571	اپیسٹریٹنگ، ٹرانزیکشنز بینکنگ، میزبان ٹیکنالوجی، آئی آئی چندر گھروڑ، کراچی	mairaj.hassan@habibmetro.com

 ویب سائٹ: پیشکش کی یہ دستاویز <https://gfg.com.pk/msm/right-share-offer/> اور <https://www.psx.com.pk/> سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔



سرمایہ کاروں کے لیے ہدایات

ایکویٹی سکیورٹیز اور ایکویٹی سے متعلقہ سکیورٹیز میں سرمایہ کاری میں ایک حد تک خطرات موجود ہوتے ہیں، سرمایہ کاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطرات کے عوامل کے پیش نظر رائٹ حصص کی پیشکش کی دستاویز (جس کا حوالہ پیشکش کی دستاویز کے طور پر دیا گیا ہے) احتیاط سے پڑھیں اور اس پیشکش میں سرمایہ کاری کرنے فیصلے سے پہلے اپنے مالی حالات اور خطرہ مول لینے کی صلاحیت کا ضرور جائزہ لیں۔

یہ لیٹر آف رائٹ (PSX) پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں قابل تجارت ہے۔ اور اس سے متعلق تمام خطرات/ نقصانات اور اعانات مکمل طور پر سرمایہ کاروں کی ذمہ داری ہوں گے۔

یہ دستاویز کینیڈا کے سینٹر ہولڈرز اور عام طور پر عوام کو -/Rs.500,000,000 کے اجراء کے سلسلے میں معلومات فراہم کرنے کے مقصد سے جاری کی گئی ہے، جس میں میر پورخاص شوگر ملز لیمنڈ کے 20 ملین نئے عام حصص شامل ہیں۔ اس دستاویز کی ایک کاپی سکیورٹیز ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہے۔
پیشکش کی یہ دستاویز 05 جولائی 2024 تک کارآمد ہے۔



میر پورخاص شوگر ملز لیمنڈ

رائٹ حصص - پیشکش کی دستاویز

کینیڈا کے قیام کی تاریخ اور جگہ: 27 مئی 1964، کراچی، کینیڈا کی تشکیل کا نمبر: 0001893، ہیڈ آفس: دوسری منزل، ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیومنٹ روڈ، کراچی-75530

رابطہ نمبر: 111-354-111(21)92+، ویب سائٹ: <https://gfg.com.pk/msm/> متعلقہ شخص: جناب واصف خالد

فون: 111-354-111(21)92+، ای میل: rims@fg.com.pk

ایٹو کا سائز: ایٹو 20,000,000 رائٹ شیئرز (یعنی میر پورخاص شوگر ملز لیمنڈ کے موجودہ ادا شدہ سرمائے کا تقریباً 42.957%) پر مشتمل ہے جس کی فیئس و پلیو-10 روپے فی شیئر ہے اور پیشکش

قیمت -/25 روپے فی شیئر (پیشکش پر بیمہ -/15 روپے فی شیئر) رائٹ ایٹو کے ذریعے جمع کی جانے والی رقم کل 500,000,000 روپے ہے۔

عوامی تھروں کے لیے PSX پر پیشکش کی دستاویز رکھنے کی تاریخ: قابل اطلاق نہیں (عوام کے تھرو نہیں مانگے جارہے ہیں)

نائل آفر لیٹر کی تاریخ: 28 مارچ 2024

کھاتے بند ہونے کی تاریخ: 26 مارچ 2024 سے 01 اپریل 2024 تک

رکیت کی رقم کی ادائیگی کی تاریخیں: 08 اپریل 2024 سے 07 مئی 2024 تک

لیٹر آف رائٹ کے لیے ڈیڈ لائن کی تاریخیں: 08 اپریل 2024 سے 29 اپریل 2024 تک